SENATE OF PAKISTAN

SENATE DEBATES

Saturday, June 11, 2005

The Senate of Pakistan met in the Senate Hall (Parliament House) Islamabad, at twenty Five minutes past ten in the morning with Mr. Chairman (Mr .Mohammedmian Soomro) in the Chair.

Recitation from the Holy Quran

اعوذ باللہ من الشیطٰن الرجیم

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

ثم جعلنٰک علٰی شریعة من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون o انهم لن یغنوا عنک من الله شیئا ط و ان الظٰلمین بعضهم اولیاء بعض والله ولی المتقین o هذا بصائر للناس و هدی و رحمته لقوم یوقنون o ام حسب الذین اجترحوا السیأت ان نجعلهم کالذین اٰمنوا و عملوا الصٰلحٰت سواء محیاهم و مماتهم ط ساء ما یحکمون o

ترجمہ۔ پھر ہم نے تم کو دین کے کھلے رستے پر قائم کر دیا۔ تو اسی پر چلے چلو۔ اور نادانوں کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلنا۔ یہ اللہ کے سامنے تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے۔ اور ظالم لوگ ایک دوسرے کے دوست

ہیں۔ ان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ جو لوگ برے کام کرتے ہیں کیا وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کو ان لوگوں جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے۔ اور ان کی زندگی اور موت یکساں ہوگی۔ یہ جو دعوے کرتے ہیں برے ہیں۔

(سورۃ الجاثیہ آیات ۱۸ تا ۲۱)

Point of Order Re: A false news item

On personal explanation. جناب چیئرمین، بسم اللہ الرحمٰن الرحیم۔

Senator Muhammad Azam Khan Swati: Sir, being a Senator the character, the respect of this House demands and I have already filed a formal breach of my personal privilege under Rules 60 and 61. This requires my personal explanation which further needs that this House be told the dark background as to why a news has been floating and had come on surface since yesterday and it had come in today's 'The News". I categorically deny that I am a Member of any board of any college. What I did basically as soon as I heard the news, I called Prof. Dr. A.J.Khan, in Abbottabad. He is a good friend of mine, he is a family friend. We have a long history of working together and I asked him whether he has given my name in any shape or any fashion as a board member. He said 'no' but then he told me at the same time, that there is a college in Abbottabad called Abbottabad International Medical College or something has given your name, I even don't know who is the owner of that college. Being a corporate lawyer in United States if I were a director of a corporation or if I am Member on the board, then my permission has to be sought first. The

am Member on the board, then my permission has to be sought first. The second thing is the minute has to show, the Article has to show that yes, I am a Member of a board. Categorically I denied that I am not a member of any college whatsoever in the whole Pakistan. That should clear my position first of all. Why are these things coming out now? It is just to malign the character of a person who is doing a job as a Member of this great House. With the grace of Almighty, I still say that if strict action is not taken against the Secretary of the NDC, I don't know him personally but let me say that I must resign from that particular Health Committee. Mr. Chairman, let me also reiterate that I was not even a Member of that Standing Committee. Let me also say if I were a Member of any board of any college, I would have excused myself there and then this what the law requires. I think this kind of staff needs to be stopped completely and strict action has to be taken against him.

Mr. Chairman: Why don't you move it in the process and we will take action on it, rest assure.

Senator Muhammad Azam Khan Swati: I am also seeking the help of all the members of the Senate that not only this man should be completely stopped when a unanimous resolution has been passed by the Senate, it has to be honoured. It has to be honoured in letter and spirit.

Mr. Chairman: Then I think, why don't you move it and then we will process it, rest assure and Azam Swati by himself is also held in a

highest esteem. As a Senator also you have a role but by an individual capacity also you are held in highest esteem. Let me assure you....

Senator Muhammad Azam Khan Swati: The thing which really hurt me, that right in your office a few of my colleagues were there, how this thing came out in the newspaper? There is one of the questions that has to be raised that I am raising right now. The second thing is that you should have been called me and should have shown that document.

Mr. Chairman: In my office, I don't recollect what was there.

Senator Muhammad Azam Khan Swati: It says that the meeting was held.

Mr. Chairman: I have not seen this news item.

Senator Muhammad Azam Khan Swati: OK, basically ....

Mr. Chairman: I will process it if you have already written to us and rest assure that it will be attended to.

Senator Muhammad Azam Khan Swati: If any member of Senate was told about that he would have consulted me, he would have told me and then I would have cleared my position.

Mr. Chairman: But I don't recollect anything.

Senator Muhammad Azam Khan Swati: With the grace of God, I don't have any business in Pakistan for the same particular reason. Yes, I have got huge amount of money in Pakistan but that is only for

social work.

Mr. Chairman: We will process it.

Senator Muhammad Azam Khan Swati: Thank you very much.

Mr. Chairman: We are not discussing it...

(Interruption)

Mr. Chairman: We are not discussing on this please. There is no points of order of any sort. We go ahead with the speeches.

Senator Muhammad Enver Baig: Sir, point of order.

Mr. Chairman: Regarding yesterday?

Senator Muhammad Enver Baig: Yes.

Mr. Chairman: O.K.

Senator Muhammad Enver Baig: Thank You very much Mr. Chairman.

سینیٹر کامل علی آغا: جناب! میری گزارش بھی سنیں۔

جناب چیئرمین: آغا صاحب! اس کو میرے خیال میں discuss نہ کریں۔ انہوں نے move کیا ہے اس پر discussion ہوگی۔ ہم کمیٹی کو refer کر دیں گے۔ میں نے یہ دیکھا نہیں ہے۔ Let me see and process.

سینیٹر کامل علی آغا: جناب! آپ نے نہ مجھے بلوایا۔ نہ میں وہاں پر گیا۔

جناب چیئرمین: کہاں آپ کو نہیں بلوایا؛ آپ کو message آیا تھا' آپ نے کہا کہ ہم House میں بیٹھے ہیں۔ کمیٹی کی میٹنگ نہیں تھی۔

سینیٹر کامل علی آغا، جناب! آپ جب مجھے بلاتے، میں وہاں پر حاضر ہوتا۔

جناب چیئرمین، مجھے سیکرٹری صاحب نے کہا کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس وقت House میں ہیں تو we meet then. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ کو نہیں بلایا۔

سینیٹر کامل علی آغا، لیکن جناب! اس کے اندر جو impression دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ مجھے شاید میٹنگ میں بلوایا گیا تھا اور میں نہیں گیا۔

جناب چیئرمین، میں نے یہ News item پڑھا نہیں ہے لیکن میں نے بالکل بلوایا تھا۔ آپ کو، ریاڑ صاحب کو اور جو بھی concerned لوگ تھے۔ مجھے کاکڑ صاحب نے خط لکھا تھا اس لئے ان کو بھی بلوایا۔ مجھے آپ کا یہ پیغام ملا کہ ہم House میں ہیں۔ This was a meeting. کمیٹی کی میٹنگ تو نہیں تھی۔ جو بھی ہوتا، چیئر پرسن تھی she passed the words to the committee. ایسی کوئی بات نہیں ہے۔

سینیٹر کامل علی آغا، مجھے message یہ ملا تھا کہ آپ آئیں گے۔ میں نے کہا کہ جب چیئرمین صاحب مجھے بلوائیں گے میں ضرور آؤں گا۔

جناب چیئرمین، مجھے یہ message ملا کہ ہم House میں ہیں۔ چونکہ اس وقت پھر as I said, I was just hearing a meeting in routine. The committee will discuss it. It is upto the committee. یہ میں نے دیکھا نہیں ہے۔

سینیٹر کامل علی آغا، اس میں تو یہ impression دیا گیا ہے کہ معاملات appreciate کئے گئے ہیں اور ان کا stand جو ہے اس کو appreciate کیا گیا ہے۔ اس میں یہ impression دیا گیا ہے۔

جناب چیئرمین، یہ کس اخبار میں ہے؟

سینیٹر کامل علی آغا، یہ "دی نیوز" میں ہے۔

جناب چیئرمین، یہ journalist کا اپنا assessment ہوتا ہے۔ یہ ان کا ذاتی ہوتا

ہے۔ میرے آفس سے کوئی پریس ریلیز نہیں گیا ہے - Yes, there was a meeting but there is no press release on that from my office as I know.

سینیٹر کامل علی آغا، اس کو clarify کرنے کے لئے آپ کی طرف سے---------

جناب چیئرمین، میں دیکھ لوں کہ کیا ہے؟ میں نے پڑھا نہیں ہے - Certainly I am with you.

سینیٹر کامل علی آغا، بڑی مہربانی۔

سینیٹر ڈاکٹر نگہت آغا، جناب چیئرمین! یہ ایک معزز رکن پر serious allegation ہے۔

جناب چیئرمین، اب بات ہو گئی ہے اس پر، انہوں نے وضاحت کر دی ہے۔We will process it. آپ تشریف رکھیئے۔

Senator Dr. Nighat Agha: It is very serious allegation.

جناب چیئرمین : میں دیکھ لوں گا - We will see whatever needed to be done. Rest assure that will later be handled appropriately. Now, we take up the leave applications.

(مداخلت)

Senator Muhammad Enver Baig: At times when man loses his cool and rightly in Islam

کہ غصہ حرام ہے and unfortunately, we both lost our cool but I have all the respect for the Leader of the House and I tender my unconditional apology, if it has hurt him in any way.

(Thumping of Desks)

very much.

Senator Wasim Sajjad (Leader of the House): I am very grateful to the honourable Senator. I have highest respect for the all honourable members of that side and sometimes we do lose our cool and Ifeel sir, that we should not lose our cool, especially when we are discussing issues, I think, being personal element into this is contrary to Parliamentary norms and practice. We have nothing personal against them. I have the highest respect in fact. Raza Rabbani, for example, a man of great dignity and grace, we will differ in issues, sometimes we make theapology and sometimes he makes the walk out, he does all those things but that is part of parliamentary procedure, nothing personal. So, whenever somebody gets up and says a personal thing, we should all condemn it. We have nothing personal against each other. This is part of the politics. We represent one party, we represent another point of view and I think, this should continue. This is a part of healthy, parliamentary practice and tradition. But as far as personal matters are concerned, sir, I respect for each and every member including Mr. Enver Baig, a man of grace and dignity. I have nothing against him. Thank you very much, I am grateful to you.

Mr. Chairman: It is good gesture and it is very much appreciated.

(Interruption)

(Interruption)

Mr. Chairman: No. No. Let's go on to the other business. Now, we take up the leave applications.

Senator Dr. Muhammad Akbar Khawaja: Sir, I want to say something on it...

جناب چیئرمین : خواجہ صاحب ! آپ تشریف رکھیں

because we have a very heavy agenda before us. Let's follow that, personal explanation is a right and this was also happened yesterday.

(Interruption)

Senator Dr. Muhammad Akbar Khawaja: Office will issue a clarification..

Mr. Chairman: I have to read it first. Appropriately, it will be handled. Let me see what it is?

LEAVE OF ABSENCE

جناب چیئرمین: جناب امان اللہ کنرانی نے ذاتی مصروفیات کی بنا پر مورخہ ۸ تا ۱۱ جون ایوان سے رخصت کی درخواست کی ہے۔ کیا درخواست منظور ہے۔

(رخصت منظور کی گئی)

جناب چیئرمین: ڈاکٹر محمد ساجد نے ذاتی مصروفیات کی بنا پر مورخہ ۱۰ تا ۱۱ جون ایوان سے رخصت کی درخواست کی ہے۔ کیا درخواست منظور ہے۔

(رخصت منظور کی گئی)

جناب چیئرمین: جناب اسفند یار ولی نے ذاتی مصروفیات کی بنا پر آج مورخہ ۱۱ جون

(رخصت منظور کی گئی)

جناب چیئرمین، جناب ایس ایم ظفر نے ذاتی مصروفیات کی بنا پر مورخہ ۱۰ اور ۱۱ جون کے لیے ایوان سے رخصت کی درخواست کی ہے۔ کیا درخواست منظور ہے۔

(رخصت منظور کی گئی)

جناب چیئرمین، جناب محمد اجمل خان نے اطلاع دی ہے کہ وہ پشاور میں مصروفیات کی بنا پر آج مورخہ ۱۱ جون کو اجلاس میں شرکت نہیں کر سکیں گے۔ جناب محمد علی درانی نے اطلاع دی ہے کہ وہ بعض مصروفیات کے باعث لاہور میں ہیں اس لیے مورخہ ۱۰ اور ۱۱ جون کو اجلاس میں شرکت نہیں کر سکیں گے۔

Further discussion on the Annual Budget 2005-06

Mr. Chairman: We still have a long list of speakers. Raza Sahib, I think, today we will have to restrict to maximum five minutes.

سینیٹر میاں رضا ربانی (قائد حزب اختلاف)، Five to ten minutes کر لیں۔ ہمارے تو کافی سپیکر ہیں جو اس وقت یہاں نہیں ہیں۔ I think, Sajid Mir Sahib should be just coming sir. سعدیہ اور مہتاب عباسی صاحب ہیں۔ Three or four speakers probably from our side today

جناب چیئرمین، وسیم سجاد صاحب! آپ کی side سے کتنے ہیں؟

سینیٹر وسیم سجاد، جناب! میں دیکھ رہا ہوں کہ ابھی کافی speakers باقی رہتے ہیں۔

جناب چیئرمین، چلیں! میں نام بڑھاتا ہوں۔ مہربانی کرکے پھر دہرائیے مت' to the point رہیں۔ جو آپ کی اپنی طرف سے ہیں انہیں آپ مختصر کرلیں۔

سینیٹر وسیم سجاد، ہر ایک کا اپنا انداز ہوتا ہے۔ اگر پانچ چھ منٹ پر restrict کر

دیں تو شاید کام چل جائے۔

جناب چیئرمین، اس سے زیادہ نہیں ہے، میں reminder نہیں دوں گا and I will put off the mike.

سینیٹر وسیم سجاد، دیکھیں جی، recommendations بھی آئی ہیں ۔ ان پر بھی آخر کچھ بات ہو گی ۔

جناب چیئرمین، ایک time agree کرلیں۔ اگر ان کے چار ہیں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ دس منٹ تک دیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ پانچ منٹ تک کر لیا جائے then time should be reasonable.

سینیٹر وسیم سجاد، چھ سات منٹ کر دیں ۔

سینیٹر میاں رضا ربانی میرا خیال ہے کہ 8 سے 10 منٹ کرلیں۔

جناب چیئرمین : چلیں ! ٹھیک ہے but I request the honourable members to please abide by that.

سینیٹر وسیم سجاد، نہیں جناب! abide by نہیں، آپ cut کر دیں--

جناب چیئرمین: مطلب ہے کہ cut کر دیں and I will also abide by that.

قاری محمد عبداللہ صاحب نہیں ہیں ۔ لیاقت بنگزئی صاحب نہیں ہیں۔متین شاہ ۔

سینیٹر وسیم سجاد، آپ اناؤنس کریں کہ جو نہیں ہے اس کو دوبارہ موقع نہیں ملے گا۔

جناب چیئرمین، I think وہ تو رول میں ہے۔ جن کا نام ہو گیا۔ متین شاہ صاحب۔

سینیٹر متین شاہ، شکریہ۔ جناب چیئرمین صاحب ! وفاقی حکومت نے سال 2005-2006ء کے لیے بجٹ پیش کر دیا گیا ہے۔ اعداد و شمار کے اس گلدستے میں نہ رنگ ہے نہ خوشبو۔ ہرشخص اس کو محض سرکاری formality قرار دیتا ہے۔ کوئی اس سے بہتری کی امید

نہیں وابستہ کر رہا اور جب تک بجٹ کو اعلیٰ طبقات کو مراعات کی بجائے غریب آدمی کی فلاح اور بہبود کا ذریعہ نہیں بنایا جاتا اس وقت تک عام آدمی کے لیے بجٹ اعداد و شمار کا کھیل ہی رہے گا۔

جناب چیئرمین! ہم پانچ سالوں سے یہ دعوے سن رہے ہیں کہ بجٹ عوام کی تقدیر بدل دے گا، غربت کا خاتمہ کر دے گا، صحت اور تعلیم کی سہولیات اب بآسانی ملیں گی، مہنگائی اور بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا مگر مالی سال کے اختتام پر حالات جوں کے توں ہی رہتے ہیں۔ غربت میں کمی کی بجائے مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ تعلیم اور طبی سہولیات کے لیے غریب عوام ترستے ہیں اور مہنگائی اور بے روزگاری سے انسان کے لیے ایک وقت کا کھانا مشکل ہو گیا ہے اور انسان خود کشی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ کسی کو ان کی کوئی فکر نہیں ہے۔ لوگ ٹوٹی ہوئی سڑکوں پر چلتے چلتے تھک گئے ہیں اور ان کے پرائمری سکول درخت کے نیچے قائم ہیں اور بعض سکولوں میں ٹاٹ تک نہیں ہیں۔ سمگلر معصوم لوگوں کو لوٹتا ہے، ذخیرہ اندوز انہیں تڑپاتا ہے۔ بے روزگاری کے اس طوفان نے نوجوانوں پر کاری ضرب لگائی ہے۔ڈسپنسریوں میں دوائی نہیں ملتی ہے۔ زندگی کا شاید ہی کوئی گوشہ ہو جس پر لوگ اظہار اطمینان کر سکیں۔ ان حالات میں پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے حکومتی دعوے بہت بڑا فریب ہے۔ ہر پاکستانی سوال کرتا ہے کہ اگر ترقی اور خوشحالی آئی بھی ہے تو بلندوبالا ایوانوں میں امیر طبقات کی عالی شان کوٹھیوں اور جاگیرداروں کی حویلیوں سے باہر کیوں نہیں آ رہی۔

بدقسمتی سے کاغذات پر تو ہمارے حالات بہتر دکھائی دیتے ہیں مگر زمین پر صورت حال مختلف ہے۔ اس وقت روزمرہ اشیاء کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ آئے روز ٹیکسوں اور قیمتوں میں اضافہ کے باعث لوگوں کی قوت خرید ختم ہو گئی ہے۔ عام لوگوں کو خوشحالی کے خواب کی تعبیر حاصل کرنی ہے تو اشیائے ضرورت کی قیمتوں کو کنٹرول کرنا ہوگا اور بااثر لوگوں کی لوٹ مار بند کرانی ہو گی۔

پہلے پہل تو بجٹ غربت کے خاتمے کا آلہ تصور کیا جاتا تھا اور اب اس آلے کو تالے میں بدل دیا گیا ہے۔ پانچ سال سے غربت کے خاتمے کے صرف دعوے ہو رہے ہیں۔ آج تک

ایسا کوئی سورج نہیں نکل سکا جس کی روشنی غریب گھروں تک پہنچی ہو۔ بے شک بجٹ میں سرکاری ملازمین کا کچھ خیال رکھا گیا مگر اس سے ایک بھی ملازم کی حالت بہتر ہونے کے امکانات بہت کم ہیں۔ جناب چیئرمین! پنشن میں دس فیصد اضافہ کرکے بزرگوں کا مذاق اڑایا گیا۔ اضافہ کم از کم تیس فیصد ہونا چاہیے۔ بجٹ میں airconditioner اور موبائل کے استعمال کو بنیاد بنا کر درمیانی طبقے کی ترقی کا دعوی گمراہ کرنے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ حالیہ بجٹ جہاں اہلیان وطن کو relief دینے میں ناکام رہا وہاں وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقہ جات کو بھی نظر انداز کیا گیا۔ فاٹا کے عوام دور جدید میں پسماندگی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں اور انہیں بھی فوری relief کی ضرورت تھی مگر بدقسمتی سے محروم قبائلی صاحبان اقتدار کی توجہ حاصل نہیں کر سکا اور ہمارا مطالبہ ہے کہ فاٹا میں ترقیاتی منصوبوں کے لیے خصوصی رقم مختص کی جائے تاکہ قبائل بھی پاکستان کے دیگر علاقوں کی صف میں شامل ہو جائیں۔ جناب والا! یہ حقیقت چند دن میں کھل کر سامنے آ جائے گی کہ بجٹ میں عوام کے مفاد کو کہاں تک مد نظر رکھا گیا ہے۔ موجودہ بجٹ کے بارے میں حقائق اور عوامی حلقے کی رائے سامنے رکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ماضی کی طرح اس سال کا بجٹ بھی کوئی تبدیلی نہیں لا سکے گا اور نہ بجٹ میں کئے گئے اقدامات سے عام آدمی کو relief ملے گا۔ جناب عالی! اگر اراکین سینیٹ کی تجویز کی روشنی میں بجٹ کی حکمت عملی تبدیل نہ کی گئی تو یہ لوگ یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گے کہ موجودہ حکومت امیر کو امیر تر اور غریب کو غریب بنانے کے فیصلے پر عمل پیرا ہے۔ اس بجٹ میں عوام کی بجائے مراعات یافتہ طبقے کے مفادات کی نگرانی کی گئی ہے۔ یہ بجٹ جھوٹے اعداو شمار کا انبار ہے۔ بہت پہلے انقلابی شاعر حبیب جالب نے ایسے دستور کے بارے میں کہا تھا' آج میں بھی اسے دہرانا چاہوں گا کہ۔

اس کھلے جھوٹ کو ذہن کی لوٹ کو میں نہیں مانتا' میں نہیں مانتا
ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا' میں نہیں مانتا

جناب چیئرمین شکریہ۔

Mr. Chairman: The next speaker will be Mrs. Roshon Khurshid

Bharocha but before that I just read the... Agha Sahib, I have just read the news item, it refers to some information given to them and I think, a report from the newspaper itself, there is no press release from our side, there was nothing discussed about Mr. Swati, that will be clarify right away from my office. And in the end it says that the committee that is handling this will continue to handle it, so no decision was taken because it is the committee's responsibility, they will take care of it, that is already acknowledged. The rest is there on opinion, we did discuss about quality of education, you can put it in different words but there was discussion at all and we will clarify that right away. Anything else that you want to clarify, please let me know, it will be attended to, rest assure. Mrs. Roshan Khurshid Bharucha.

Senator Roshan Khurshid Bharucha: Thank you Mr. Chairman, for giving me the floor. Before I begin Mr. Chairman, I would like to begin by congratulating the Minister of Finance and the department and the Government for this friendly Budget. Mr. Chairman, the Budget has been increased by 21.7% and I think, it is a good increase, the GDP has gone up from 8.4. But coming to the main point Education which plays vital role in the developing country like Pakistan, the Budget has gone up from twelve thousand two hundred and fourteen million to sixteen thousand six hundred and forty eight which I feel, is a good step and we all should appreciate this because this increase will also increase the

literacy rate from 45% to 53% which I feel is excellent. It has also looked into, the computer technology, its budget has also been increased to 22. 2% and most of all the science and technology which is the most important, its budget has been incresed by 63%. So, I feel that education budget has been increased. The question, I am sure, will arise that where does our primary education go, where does our secondary education stand. Mr. Chairman, I would like to say that primary education and secondary education is free which I feel, is an incentive for our students. Yes, of course there is again a problem occurring about infrastructure, people say that there is no infrastructure and there are no teachers. The problems are there but what can a budget do? We have to look into it, how we do it, there is a need of monitoring for it. Mr. Chairman, as you know that for this reason having less infrastructure, we have got the double shift of education and I feel that the Budget is excellent, it is the way, we implement, how we look into it and how it is monitored that is a question over there. Mr. Chairman, I would also like to say that lot have been done in education but there has lot to be done. Nothing is enough and nothing is the end.

Mr. Chairman, now, coming to health, I think, lot have been done in health. Again people will say there is no medicine in the hospitals, you are right but then look at the population rate, how it is going up but I personally feel that our social people are doing a lot for the medical ground. Coming to the Lady Health Workers, our programme has been

well known in the world of the Lady Health Workers who are doing hard work, especially in rural areas and I think we should appreciate that instead of criticising everything. I don't think the budget is so bad. Look at the polio. Polio has been completely finished, except for a few cases in Pakistan, I think that even excellent. Health department has been working a lot but again the question arises by the people that there are no doctors in rural areas. Now what can a budget do? Budget has been allocated, if the doctors don't go there, then again Health Department has been working with the midwife, they are training the midwives, if there are no doctors at least midwives can do something about it. Health Department is trying its level best, I feel that's good, if a department is doing, let's come forward and appriciate and not always run everything down.

Mr. Chairman, coming to agriculture, what has Government not done for agriculture? Look at the percentage of tractors from 15 to 20 and then on urea they have finished taxes. I think in agriculture and irrigation, Government is doing a lot. At the same time I do agree when they say 10% is nothing for pensioners, I also personally feel that old pensioners should have gone much better than what the new pensioners are getting because they are getting much. But again if you see, the minimum rate for pays from 2500 to 3000, again you see pensioners from 700 to 1000. I am sure the Government has done a lot and we should not say that they have done nothing.

There are always good things and bad things and we all are here

to work on it and not to criticise. There are people who say the budget is excellent but there is no untilization. Who is to be blamed? Is the Ministry of Finance to be blamed? Mr. Chairman, who is to be blamed? It is we who are, because we don't know how to utilize. First of all I can give you the example of our own Balochistan, most of our people don't know how to make PC-I and that is how PC-1s are getting rejected and coming back and that is how the money gets left. So, the problems are everywhere but I would like to say a little bit on electricity and about gas. There is so many villages which do not have electricity. Balochistan, a place where we use to have sui gas, we didn't have but look at what Government has done. Today we have gas in Ziarat, we have gas in Kalat and very soon we are going to have in Chaman and Zhob. So, Government is definitely doing a lot in every field but there is again I would see that there is lot to be done. Thank you very much since I have five minutes, so, I think I should not speak more again.

Mr. Chairman: Thank you for abiding by the time, I appreciate that very much. Miss Sadia Abbasi.

Senator Saadia Abbasi: Sir, please give the floor to the next speaker.

Mr. Chairman: You want to speak later?

Senator Saadia Abbasi: Yes.

Mr. Chairman: Mr. Aslam Buledi, Amanullah Kanrani, Mr. Latif

Khosa.

Senator Sardar Muhammad Latif Khan Khosa: Mr. Chairman, I am grateful for the benevolence with which you allow me to have the floor. Sir, we have a beautiful country and we have a population about 15 crore. I think we have the best of soil and earth and space that an envisionable anywhere in the world.

Unfortunately, despite the lapse of 57 years we have not been able to carry our country and our people in the esteemed and respected place where it should have been today. The same hilly terrain which abuts Iran, which abuts Iraq where oil is produced best in, I think the richest in the world, we are deprived of that facility because of lack of exploratory and visionary measures which should have been taken and adopted by our respective Governments. Mr. S.M. Zafar was absolutely and perfectly right that it has to be a cohesion, a unity, a trust, a faith in the people if you want the country and if you want the people to develop, to progress, to prosper and to have a life on earth equivalent to a life in Heaven. But unfortunately in this part of the world where by the exit of our path founder Father Muhammad Ali Jinnah and his Deputy Liaquat Ali Khan, we were thrown in the wilderness and a vacuum was created which was rather taken over by undemocratic forces who wanted to usurp the power in the country and not carry the people with them. We were ruled not by the Britishers any longer but certainly not by the people

only the people who could have chosen to raise their destiny, who could have chosen to work for the progress and prosperity of the people of Pakistan and for this country but the forces who came over most of the time took over Pakistan were more concerned with perpetuating their own powers and they were not being regulated, guaranteed and they were not depending on the people of Pakistan. I wish we had dependence on our human resources and I wish we had taken the people into confidence, carried them with the same fervour in which Pakistan was created and then of course we would have developed into a Nation, a prosperous nation, a country which should have risen in the comity of nations with pride and dignity. But today alas! we don't see that prosperity in our country. Sir, I think the best and most popular and the most powerful course that we have is the human resource. Fifteen crore people of Pakistan should have been taken together and in unison for a dedicated cause to let the image of the Ummah to see that our religion dominates the world, to see that our people rise and again see a prosperous Pakistan with all the four units which now we have, of course, we have lost half the wing of the country but the other half that we have, we have four diversed provinces of course, not equal distribution either in population or in the resources. But certainly if we have supplemented one with the other we could have built in a very mighty force but unfortunately we lost that opportunity and we are losing it even now. Even now, sir, what we see is that NFC Award has not been given. Even now today, it was on the Television that the

Frontier Province was asking for funds from the Prime Minister because they had budgetary difficulties and even the salaries were not payable to the employees within the province. We also saw even in the Province of Sind when the Budget has been presented, there was a clamour that we have to go to Islamabad and beg for charity. Sir, again we see that the same happens in Balochistan and Punjab is not satisfied either. Why we are not carrying our units together? Why is the NFC being withheld? Why are the resources being given to the provinces by your charity and not by their upright. This is the right of the provinces. We have unfortunately created provincial disunity and provincial disharmony and we have not carried the units together and the Federation seems to super impose in itself in the smaller provinces.

Sir, the clamour that we hear from this side of our country, from the smaller provinces is not wholy unjustified and they go to the extent of rebellion which I don't go alongwith that but the fact is that when you squeeze somebody, when you deprive somebody, when you push somebody to the wall then you can obviously expect anything happening and this is exactly what we did with East Pakistan now Bangladesh. We have not learnt anything from history. So, it is high time that we should see that why the NFC Award is not given, because I see it in the papers, there are no foreseeable signs in the future, also that the NFC Award is coming forth any longer.

The President is nobody to stake upon himself the responsibility

of saying that whatever I give the award would be acceptable to the four provinces and now he has relegated this obligation on the Prime Minister of Pakistan. Sir, it is high time that for the NFC, under the Constitution should be not only called requisitioned session but also it is within through their mutual consultation and then needs and requirements with which the Award has to be given and the Award cannot just simply be given on the basis of population because then Punjab get the bulk of it and the other three provinces would not be getting that whereas we see that, so far as the territorial hugeness is concerned, that is another province. The population is in another province. The resources are in another province but again we don't realise that if we do not give the mineral rights to the people of Balochistan the only wealth that they have that means that we are depriving one province of their natural resources and human rights and we are talking with other countries. How can we talk with other countries that we don't have affinity, amity and cohesion within our country and the popular leadership of this country, at least of three political parties is either abroad or not allowed to come into the country and how do you expect a national consensus because I am sure everybody is a patriotic Pakistani and I am sure everybody is concerned about Pakistan and I am also positive that everybody knows what the problems of Pakistan are? So, why can't we sit together in a united manner and talk and discuss and identify the problems and then go for the solution. I am sure every Pakistani would go in for that and sir, if you want

to have a law and order situation calm down and a peaceful Pakistan, you have to have a national consensus and only then foreign investors would be ploughing into Pakistan. You do not expect that if there is a discord within the country, if the future investor does not know where he stands tomorrow, if he thinks that the other party, political government which is going to come into power is not going to honour the commitment made by this regime, by this Government, then obviously they are not going to come in and invest into Pakistan because any foreign investor would need a continuity of the policy and would need security and guarantee of the investment which he does make. So, therefore, if you want a prosperous Pakistan, if you want the foreign investors to come into Pakistan then certainly you need to have a national consensus. You need all the political leaders to be brought into and who else to take the lead. Sir, the lead has to be taken by people, by the party which is in power and I don't see any reason why anything should deter.

There is certainly an aura in the air, a fragrance in the air that there are certain developments which are taking place whereby all political forces are being brought within the streamline of political set up and that was very heartening but when Asif Zardari comes and he lands here, the whole of the police in Pakistan has nothing else to do except to grab the political activists of the Pakistan Peoples Party to restrain all the vehicles which are coming right from Karachi to Peshawar and again to return anybody who goes to receive him even a Senator, I personally was also

anybody who goes to receive him even a Senator, I personally was also intercepted and taken, although I was not going for anything else except only to see and wish Zardari and I had to take.......

Mr. Chairman: Please conclude now.

Senator Sardar Muhammad Latif Khan Khosa: Yes, sir. So, therefore, this repressive rule is not going to make any good for either the Government or for the country. So, let us realise that there is a high time, where bickering has taken place. Sir, let me come to another forum here......

Mr. Chairman: I think you have to conclude now.

Senator Sardar Muhammad Latif Khan Khosa: You know, sir, that they have been given 30, 40, 50 minutes.

Mr. Chairman: No, but that is fine. You see, the speakers speak initially that is why you rotate among yourselves, that is why you can't repeat. Many speakers are still waiting, their time is limited. So, you have one minute more and then I will call the next speaker.

Senator Sardar Muhammad Latif Khan Khosa: Sir, I am on the access of the justice now. Any civilised society would want that the system of justice must be stream lined and it must be an independent judiciary. This is the trichotomy of power in our Constitution also. But sir, if you see the budget itself, this is unfortunate that not a single penny has been allocated to the Pakistan Bar Council which is a statutory body under the Legal Practitioners and Bar Council's Act.

allocate funds for research and for the libraries etc. of the Pakistan Bar Council. Now, Pakistan Bar Council which is the highest body of lawyers in Pakistan of about 100 thousand lawyers, sir, it does not have any premises of its own. It does not have any library, any auditorium, any research oriented premises for it and not a single peny has been allocated in the budget.........

Mr. Chairman: Please be seated. Sahibzada Khalid Jan.

سینیٹر صاحبزادہ خالد جان، بسم اللہ الرحمٰن الرحیم۔ شکریہ جناب چیئرمین کہ آپ نے مجھے اس بجٹ پر بولنے کا موقع دیا۔ نوجوان وزیرمملکت عمر ایوب نے بہت اچھے طریقے سے بجٹ تقریر کی مگر NFC Award کے بغیر بجٹ پیش کرنا ملک کے عوام سے زیادتی ہے۔ حکومت نے جو بجٹ پیش کیا ہے اس سے غریب عوام کو کیا فائدہ ہوگا؟ یہ تو سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کا بجٹ ہے۔

جناب والا! نیشنل عوامی پارٹی نے NFC Award کا فیصلہ نہ کرنے کے خلاف آج صوبہ سرحد میں جو ہڑتالی کیمپ لگائے ہیں ہم ان کی حمایت کرتے ہیں اور اس کی تائید کرتے ہیں۔ جناب والا! ہم مرکزی حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ جلد ہی NFC Award کا فیصلہ کرے تاکہ عوام میں یہ بے چینی ختم ہو جائے۔

جناب والا! حزب اختلاف کی طرف سے direct اور حزب اقتدار کی طرف سے indirect جو تجاویز سامنے آئی ہیں ہم ان کی تائید کرتے ہیں۔ دفاعی بجٹ کو اکثریت نے پارلیمنٹ میں لانے کے لیے کہا ہے اور ہم اس کی تائید کرتے ہیں کہ دفاعی بجٹ کو ایوان میں زیر بحث لایا جائے۔

جناب والا! وزیرمملکت صاحب نے زرعی شعبے کے متعلق کہا ہے کہ بہت سی مشکلات کاشتکار کے سامنے ہیں اور وہ بہت سی مشکلات میں پھنسا ہوا ہے۔ جو کچھ بویا جا رہا ہے اس کی

قیمت پوری نہیں ملتی ہے اور جو اس پر خرچ آتا ہے وہ اسے پورا نہیں کر پاتا ہے۔ حکومت نے یہ دعوی کیا ہے کہ اس سال گندم کی فصل بہت اچھی ہوئی ہے۔ جناب والا! میں حکومت کے اہلکاروں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ بنگلوں اور گاڑیوں سے باہر آجائیں اور آپ دیکھ لیں گے کہ اس سال پچھلے سال کی نسبت گندم کی فصل کم ہوئی ہے۔ یہ صرف کاغذوں میں زیادہ بتائی گئی ہے۔

جناب والا! گزشتہ سال 2004-05ء میں حکومت نے water management کے لیے خطیر رقم تقریباً چار ارب روپے رکھی مگر کاشتکاروں کے مشورے کے بغیر۔ حکومت نے ایک PC-1 تیار کیا ہے، اس کو ہم پر اوپر سے مسلط کیا گیا ہے۔ اس PC-1 میں یہ ہے کہ پچھلے 25 ,20 سال سے جن منصوبوں پر ایک فیصد بھی کام ہوا ہے انہیں چلایا جائے مگر اس پر عملدر آمد نہیں ہو رہا ہے۔ میں حکومت سے اپیل کرتا ہوں کہ اس PC-1 کو کاشتکاروں کے مشورے سے تیار کیا جائے تا کہ اس پر عملدر آمد ہو سکے۔

جناب والا! عمر ایوب صاحب نے بجٹ تقریر میں کہا کہ ہمارے ہمسایہ ملک میں تیل کی قیمت ہم سے زیادہ ہے۔ جناب والا! ہمارے چاروں طرف چار ہمسایہ ممالک ہیں۔ کیا ایران، چین اور افغانستان میں بھی تیل کی قیمت زیادہ ہے؟ صرف ایک ملک میں زیادہ ہے باقی تینوں ممالک میں تیل کی قیمت ہم سے کم ہے۔

جناب والا! بجلی اور گیس کا ذکر بجٹ میں کیا گیا ہے۔ ان کے لیے خطیر رقم بھی رکھی گئی ہے لیکن ہزاروں کی تعداد میں عوام اب بھی اس سے محروم ہیں۔ ہم مالاکنڈ سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہمارے مالاکنڈ میں دو بجلی گھر ہیں، تیسرا بن رہا ہے۔ یہاں ابھی تک ہزاروں عوام بجلی کی سہولت سے محروم ہیں۔ اسی طرح گیس ایک دو فیصد لوگوں کو بھی نہیں پہنچی ہے۔
جناب والا! مالاکنڈ ڈویژن پسماندہ ہونے کی وجہ سے tax free zone ہے۔ اب وہاں پر چھوٹے کارخانے لگائے جا رہے ہیں مگر وفاقی حکومت نے اس پر tax لگایا ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ کارخانے بند کر رہے ہیں۔ جناب والا! مالاکنڈ ڈویژن کو ٹیکس سے مستثنیٰ قرار دیا جائے تاکہ وہاں سے پسماندگی دور ہو جائے۔

جناب والا! تعمیر وطن پروگرام کے پروگرام جو گزشتہ سال ہم نے دیئے تھے، بجلی اور گیس کے محکمے ان پر کام نہیں کر رہے ہیں اور سارے فنڈ ان کے پاس پڑے ہوئے ہیں اور ہمارا کام پورا نہیں ہوا ہے۔ جناب والا! مالاکنڈ میں وفاق کے زیر انتظام Levy Force امن و امان کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ مگر فنڈ نہ ہونے کی وجہ سے ان کو گاڑیوں کی اور دوسری مشکلات پیش آ رہی ہیں وہ بنیادی پے سکیل نمبر ایک میں کام کر رہے ہیں ۔ مالاکنڈ لیوی کو پولیس کی طرح سکیل پانچ دیا جائے اور پولیس کی طرح کی مراعات دی جائیں کیونکہ مالاکنڈ ایجنسی کی جو لیویز ہے وہ پولیس کی طرح کام کر رہی ہے اور اس کا تعلق مالاکنڈ سے ہے ۔ اس بجٹ میں ان کے لئے کچھ بھی مراعات نہیں ہیں ۔جناب والا! گزشتہ بارشوں کی وجہ سے ملک عام طور پر اور مالاکنڈ ڈویژن خصوصی طور پر متاثر ہوا ہے ۔ وفاقی حکومت متاثرین کے لئے فنڈ مختص کرے تاکہ ان لوگوں کو ریلیف مل جائے ۔

جناب چیئرمین ! اسلام آباد سمیت تمام ملک میں پینے کے پانی کا مسئلہ سنگین شکل اختیار کرچکا ہے اور عام پانی کے استعمال کی وجہ سے ہر قسم کی بیماریاں تیزی سے پھیل رہی ہیں ۔ امیرترین لوگ صاف پانی کی بوتلیں خرید کر استعمال کررہے ہیں ، غریب عوام کیا کریں گے ۔ ان کے لئے بھی کوئی بندوبست کیا جائے ۔ شکریہ۔

جناب چیئرمین، شکریہ۔ مسز رزینہ عالم خان۔

سینیٹر رزینہ عالم خان، بسم اللہ الرحمٰن الرحیم۔ شکریہ جناب چیئرمین! سب سے پہلے تو میں اس پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتی ہوں جس میں ہمارے وزیراعظم صاحب، عمر ایوب ، ڈاکٹر سلیمان شاہ شامل ہیں جنہوں نے نہایت محنت اور جانفشانی سے ایک متوازن بجٹ تیار کیا ہے ۔ اس بجٹ میں جیسا کہ ہمارے وزیراعظم صاحب نے کہا کہ قوم کے ہر طبقے کے لئے کچھ نہ کچھ ضرور ہے ۔

جناب چیئرمین ! میں آپ کے ساتھ اور ایوان کے ساتھ یہ share کرنا چاہتی ہوں کہ جب میں وزیراعظم صاحب کے پاس اپنی سفارشات لے کر گئی کہ ایجوکیشن کے مختلف سیکٹرز

کی allocation بڑھائی جائے تو انہوں نے کہا کہ میں آپ سے متفق ہوں ، تعلیم کے لئے جتنا بھی فنڈ درکار ہوگا وہ دیا جائے گا اور اس کے لئے اگر حکومت کو قرضہ بھی لینا پڑا تو قرضہ بھی لیں گے لیکن تعلیم کی کسی بھی چیز میں کوئی کمی نہیں چھوڑیں گے ۔

جناب والا! تعلیم میں جو کچھ allocation ہوئی ہے میں اس سے مطمئن ہوں اور میں کہتی ہوں کہ اگر یہ رقم پورے طور پر خرچ کی جائے اور صحیح طریقے اور صحیح ترجیحات پر خرچ کی جائے تو انشاء اللہ تعالیٰ اگلا سال آئے گا تو تعلیم کے فروغ کے لئے اس سے بھی زیادہ رقم allocate ہوگی۔ جناب! ہائر ایجوکیشن کے لئے 11.71 billion دیا گیا ہے ۔ ان کے 347 منصوبے تیار ہیں جس پر وہ اس کو خرچ کریں گے ۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے ایک چیز بہت ہی اچھی سوچی ہے اور وہ یہ ہے کہ پرائیویٹ یونیورسٹیز اور پرائیویٹ ہائر ایجوکیشن کے جو ادارے ہیں ان کو بھی مالی امداد دینے کی strategy بنا رہے ہیں ۔ انشاء اللہ تعالیٰ جو پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں ان کے لئے بھی ہائر ایجوکیشن کچھ نہ کچھ مالی امداد کرنے کا پلان بنا رہی ہے ۔

جناب والا! وقت کی کمی کے باعث میں اپنی تجاویز پیش کرنا چاہتی ہوں ۔ سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ حکومت نے جو رقم مختص کی ہے یا جن حالات میں جو کچھ کیا ہے میں سمجھتی ہوں بہت زیادہ ہے ۔اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ جو ہرسال ایک بڑی رقم lapse ہو جاتی ہے اور اس کے projects نہیں بن پاتے ، ان پر خرچ نہیں ہوپاتا' اس کے لئے ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں اور ان پر کیسے قابو پایا جاسکتا ہے ۔ میں نے کئی Ministries سے بات کی اور جو نتیجہ میرے سامنے آیا اس میں ایک تو projects بننے یا PCI بننے میں کچھ وقت لگتا ہے اور by the time Finance Division اور Planning Commission کے درمیان یہ باتیں طے ہوتے ہوتے تین چار ماہ گزر جاتے ہیں ۔

کل یہ بات بھی کی گئی کہ بلوچستان میں کیڈٹ کالج کے قیام کے لیے رقم نہیں دی گئی ۔ جناب والا! میرے پاس اخبار کی ایک خبر ہے جس میں یہ لکھا گیا ہے کہ بلوچستان کی حکومت نے دو کیڈٹ کالجوں کے لیے مختص چھ کروڑ کی رقم حاصل کرنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی ۔ دیکھنا یہ چاہیے کہ ہم میں کیا کمی ہے۔ ہم کیوں ان رقوم سے جو کہ allocate ہوتی ہیں

پورا فائدہ نہیں اٹھاتے یا اس کو پورے طریقے سے خرچ نہیں کرتے۔

اب جناب والا! Ministries نے نئی strategy بنائی ہے اور وہ tender بھی لے رہے ہیں اور پہلے سے اپنے project کا PC-1 تیار کر رہے ہیں تاکہ جیسے ہی رقم release ہو اس کا استعمال شروع ہو جائے۔ لیکن ایک مسئلہ جو ministry سے بات کرنے کے بعد سامنے آیا ہے وہ یہ ہے چونکہ اب GDP کا quantum بڑھ گیا ہے تو cheque issue کرنے کے لیے AGPR کے پاس جو staff ہے وہ وہی ہے تو requirement کے مطابق اس میں اضافہ کیا جانا چاہیے تا کہ cheques وقت پر issue ہو سکیں اور amount lapse نہ ہو۔

جناب والا! میری دوسری تجویز education for all project کے بارے میں ہے۔ ہم نے education for all کا ایک national plan of action بھی بنایا ہے لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک international report شائع ہوئی ہے جس میں پاکستان کو out of 164 countries ان 35 ممالک میں رکھا گیا ہے جن سے یہ خطرہ ہے کہ یہ لوگ اپنا target achieve نہیں کر پائیں گے۔ جناب والا! بہت دکھ ہوتا ہے کہ ہمارا پاکستان اپنے ہدف کیوں حاصل نہیں کر سکے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی رقم چاہیے تھی وہ نہیں دی گئی international agencies کی طرف سے اور اس کمی کی وجہ سے یہ ہوا۔ میری دوسری تجویز یہ ہے کہ EFA کے لیے منسٹری نے جو چار سو ملین demand کیے تھے اور ان کو تین ملین allocate ہوئے ہیں تو میری تجویز ہے کہ اس کو چار سو ہی کیا جائے تاکہ Education For All Project اپنے ہدف پورے کرے۔ یہ اس وجہ سے بھی ضروری ہے جناب والا! کہ اگرچہ پچھلے چار سالوں میں 45% سے 53% ہوا لیکن پچھلے سال it was 54% اور پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال ہمارے economic survey کے مطابق اس میں one per cent کمی آئی ہے تو یہ ضروری ہے کہ EFA کی رقم پوری دی جائے۔

جناب والا! میری تیسری سفارش یہ ہے کہ National Education Census Programme Ministry نے شروع کیا ہے۔ ہمارے تعلیم کے اعداد و شمار دنیا میں accept نہیں کیے جاتے اور مجھے وزیر تعلیم نے بتایا کہ وہ پچھلے دنوں دوسرے ملک کسی meeting

میں گئے تھے اور وہاں پر جب ان کے سامنے کاغذات رکھے گئے تو ان میں پاکستان کے آگے کوئی اعداد و شمار نہیں تھے۔ جب انہوں نے دریافت کیا تو انہیں یہ جواب ملا کہ چونکہ ہمارے اعداد و شمار census based نہیں ہیں اس وجہ سے نہیں لکھے گئے۔ اب منسٹری نے ایک National Education Census Programme بنایا ہے اس کے لیے انہوں نے 265 million rupees طلب کیے تھے جن میں سے انہیں صرف 150 million rupees ملے ہیں تو میری یہ گزارش ہے کہ اس کی رقم بھی پوری دی جائے تاکہ یہ census ہوں اور ہمیں صحیح تعلیمی اعدادوشمار میسر آ سکیں۔

جناب والا! توانا پاکستان سکیم کے متعلق بہت کچھ کہا گیا' میں صرف اتنا کہوں گی کہ idea behind the project بہت اچھا ہے کہ پانچ اور بارہ سال کی عمر کی بچیوں کو دو پہر extra کھانا ملے اور وہ بھی rural areas اور ان districts میں جو غریب ہیں اور وہاں resources کم ہیں ۔ تو 29 districts چنے گئے تھے جہاں پر یہ پروگرام شروع کیا گیالیکن اس کی implementation صحیح نہیں ہو سکی۔ ہماری standing committee کے چیئرمین ظفر چوہدری صاحب نے ہم سب کو کہا کہ آپ جا کر ذاتی طور پر دیکھیں کہ وہاں پر کیا حالات ہیں تو جب وہ دیکھے گئے اور وہاں کافی irregularities یا مشکلات نظر آئیں۔ جناب والا! کمیٹی کی monitoring report کی روشنی میں میری تجویز یہ ہے کہ اس سکیم کو پورے 29اضلاع میں نہ کیا جائے بلکہ اس کے pilot project شروع کیے جائیں چاروں صوبوں میں اور ایک فیڈرل کیپیٹل میں اور اگر وہ پائلٹ پروجیکٹ کامیاب ہوں تو اگلے سال یہی پروگرام پورے ملک میں چلایا جائےلیکن اس میں جو خطیر رقم 567 million rupees کی ہے اس میں سے 67 million اس pilot project کے لیے رکھے جائیں اور 500 million خواتین یا بچوں کی فلاح و بہبود یا skill training project کے لیے allocate کیے جائیں۔

جناب والا! اس کے علاوہ غربت دور کرنے کے لیے جو 324 ارب روپے مختص ہیں ' ان کے لیے جو strategy بنے یا ان کو خرچ کرنے کے لیے جو plan بنے وہ بہت transparent بنے' عوام کو اس میں شامل کیا جائے' قوم کو شامل کیا جائے۔ غربت پوری قوم کا مسئلہ ہے اور یہ

نہیں ہے کہ صرف حکومت ہی اس کی ذمہ دار ہے ۔ اس لیے میں کہوں گی کہ ہم بحیثیت قوم اس میں شامل ہوں۔ ہروزارت میں غربت دور کرنے کا ایک سیل بنایا جائے اور سادگی اور austerity drive کو اپنایا جائے۔

جناب چیئرمین: اب آپ ختم کریں۔ آپ کا وقت پورا ہوچکا ہے۔

سینیٹر رزینہ عالم خان، شکریہ جناب والا!میں صرف اتنا کہوں گی کہ ہم بحیثیت قوم اس میں شامل ہوں۔ ہر Ministry میں ایک غربت دور کرنے کا سیل بنایا جائے اور سادگی اور austerity drive ہو اور آخرمیں قائد اعظم کا ایک قول quote کروں گی کہ انہوں نے کہا، جناب والا! قربانی غریب نہیں دیں گے، قربانی ان لوگوں کو دینی چاہیےجو صاحب حیثیت ہوں اور قائد اعظم نے فرمایا ہے کہ " ہم جتنی تکلیفیں سہنا اور قربانی دینا سیکھیں گے اتنی ہی زیادہ پاکیزہ، خالص اور مضبوط قوم کی حیثیت سے ابھریں گے جیسے سونا آگ میں تپ کر کندن بن جاتا ہے" ۔ تو میری آخرمیں گزارش یہ ہے کہ ملک سے بے روزگاری، غربت اور جہالت دور کرنے کے لیے ہم پوری قوم کو mobilize کریں اور بحیثیت قوم اس challenge کو قبول کریں۔ شکریہ۔

جناب چیئرمین، جناب ساجد میر۔

سینیٹر رحمت اللہ کاکڑ ایڈوکیٹ، جناب چیئرمین! بلوچستان گورنمنٹ اتنی گئی گزری ہے کہ اپنے 6 کروڑ روپے نہیں لے سکتی۔

جناب چیئرمین، میرے خیال میں آپ نے تو اپنی speech کر لی تھی اب دوسرے دوست بولیں گے تو وہ اسے cover کرلیں گے۔ آپ کمیٹی کو لکھ دیں اور ان سے بات کرکے پتا کرلیں۔ جی ساجد میر صاحب۔

سینیٹر پروفیسر ساجد میر، بسم اللہ الرحمٰن الرحیم۔ شکریہ جناب چیئرمین!

I have to say at the outset that it is a budget of the rich people, by the rich people and for the rich people.

یہ امیروں کا بجٹ ہے جو امیروں نے بنایا ہے اور ظاہر ہے جو لوگ غریب کی بھوک نہیں جانتے، اس سے واقف نہیں ہیں وہ ان کی بھوک کا علاج بھی نہیں کر سکتے۔ جس حکومت کا وزیر خزانہ حقائق کا انکار کرے، حقائق کو پہچانتے سے انکار کرے اور یہ کہے کہ لوگ خود کشیاں کرتے ہیں تو اس کی وجہ نفسیاتی مسئلہ ہے، بھوک نہیں ہے وہ حکومت کیسے ، عوام دوست بجٹ بنا سکتی ہے۔ جناب! لوگ خود کشیاں کرتے ہیں، بعض مسائل نفسیاتی ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر خود کشیاں بھوک کی وجہ سے ہو رہی ہیں اور نفسیاتی مسائل بھی بھوک ہی زیادہ تر پیدا کرتی ہے۔ بھوک تو وہ چیز ہے جس کے بارے میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ نفسیاتی مسئلہ تو درکنار، یہ کفر بھی پیدا کر سکتی ہے۔ امیروں کا بجٹ میں نے اس لیے کہا کہ اس میں کاروں کی قیمتیں کم کی گئیں ہیں گندم اور چاول کی نہیں اور آٹے کے بارے میں ایک عجیب مذاق لوگوں سے ہوا کہ جی utility stores پر چلے جاؤ سستا آٹا لینے کے لیے اور حقیقت یہ ہے کہ average سوا چار لاکھ سے زیادہ آدمیوں کو ایک utility store cater کرتا ہے، وہ کہاں جائیں گے، کیسے پہنچیں گے، کیسے آٹا لیں گے۔ تنخواہوں میں اضافہ ہوا جس کے نتیجے میں گریڈ ایک اور بائیس کے درمیان جو فرق تھا وہ فرق مزید بڑھ گیا یعنی اڑھائی ہزار۔ یہ سوچ ہے، یہ ذہنیت ہے جس کے تحت میں نے اسے کہا ہے کہ امیروں کا بجٹ ہے۔ یہی وہ حکومت ہے جناب عالی! جس نے اس سے پہلے wealth tax ختم کیا اور اب land mafia کو tax net میں لانے سے اس نے انکار کیا ہے۔

میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک معاشی ترقی کے barometer نہ تبدیل کیے جائیں، ان کے معیار نہ بدلے جائیں، اس وقت تک اس ملک میں کوئی عوام دوست اور کوئی اچھا بجٹ نہیں بن سکتا۔ جب تک ہم یہ دیکھتے رہیں گے کہ stock exchange کتنی بڑھی، پلازے کتنے بڑھے، کتنی کوٹھیاں، کتنے پلازے تعمیر ہوئے، کتنی گاڑیاں سڑکوں پر دوڑ رہی ہیں، زرمبادلہ کے ذخائر کیا ہیں، جب تک ہماری نظر ان چیزوں تک محدود رہے گی عوام کے لیے اچھا بجٹ نہیں بنے گا۔ دیکھنا یہ چاہیے کہ غربت کی لکیر سے کل کتنے لوگ نیچے تھے اور آج کتنے ہیں۔ روزگار کتنے لوگوں کو پچھلے سال میسر نہیں تھا اور آج کتنے لوگوں کو میسر نہیں ہے۔ بنیادی سہولتیں کتنے لوگ

enjoy کر رہے تھے، کتنے لوگوں کو آج حاصل ہیں۔ کتنے لوگ تھے جو گزشتہ سال ایک وقت کھانا کھاتے تھے اور اب انہیں دو وقت کا کھانا مل گیا ہے۔ کتنے لوگوں کے پاس ایک جوڑا تھا اور اب ان کے پاس دو جوڑے ہیں۔ جب تک ہماری نظر اس طرف نہیں جائے گی اس وقت تک اچھا بجٹ نہیں بن سکتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بجٹ مزدوروں، کسانوں، چھوٹے دکانداروں اور چھوٹے تنخواہ دار طبقے کا خیال نہیں رکھتا، ان کو سانس لینے کا موقع فراہم نہیں کرتا، اسے اچھا بجٹ کہہ کر غریبوں کے زخموں پر مزید نمک پاشی نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح ہمارا ایک معیار ہے فی کس آمدنی۔ ساری دنیا میں ہے، میں مانتا ہوں لیکن وہ معیار کافی نہیں ہے۔ اگر چار آدمیوں کا ایک گروپ ۵، ۵ ہزار کماتا ہے اور مجموعی آمدنی ۲۰ ہزار ہے، ان میں سے ایک کی آمدنی یکدم بڑھ جاتی ہے ۱۰ ہزار۔ مجموعی آمدنی بھی بڑھے گی اور average بھی ہر ایک کی ساڑھے سات تک پہنچے گی لیکن حقیقت کیا ہوگی؟ حقیقت یہی ہوگی کہ ایک آدمی ۵ سے ۱۵ پر چلا گیا اور باقی بدستور ۵ پر کھڑے ہیں۔ یہ بھی ایک کافی indicator نہیں ہے۔ ہمارے جنرل مشرف صاحب نے بڑی خوشی کا اظہار کیا کہ فی کس آمدنی بڑھ گئی ہے اور انہوں نے اس سے یہی نتیجہ نکالا کہ غربت کم ہوئی ہے۔ غربت کم نہیں ہوئی بلکہ غربت بڑھی ہے۔ اس لئے، جب تک economic managers کی نظر انہی indicators تک محدود رہے گی اچھا بجٹ نہیں بنے گا۔ اس کے ساتھ وہ خود تسلیم کرتے ہیں کہ افراط زر بڑھا ہے اور مہنگائی بڑھی ہے۔ جو ہدف انہوں نے گزشتہ سال خود مقرر کیا تھا ۵ فیصد وہ cross کرکے ۱۱ فیصد ہو گیا ہے۔ یہ بھی نامکمل ہے، درست نہیں ہے۔ اس سے زیادہ افراط زر اور مہنگائی بڑھ چکی ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کھانے پینے کی اشیاء بالخصوص بعض کی قیمتیں بلا مبالغہ دو سے تین سو گنا اور بعض چیزوں کی ۴ سے ۵ سو گنا بڑھی ہیں۔ دراصل ہماری economy کو مل جل کر ان لوگوں نے debt economy بنا دیا ہے۔ ہماری معیشت قرضے پر چل رہی ہے۔ غالب نے تو کہا تھا، اس کو کم از کم اتنا احساس تو تھا کہ

قرض کی پیتے تھے مے لیکن سمجھتے تھے کہ ہاں
رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن

لیکن ہمیں یہ احساس بھی نہیں ہے کہ ہماری فاقہ مستی کیا رنگ لا رہی ہے اور کیا رنگ

لائے گی؟ یہ ایک debt economy ہے اور یہ ایک market economy ہے جس میں امیر امیر تر ہو رہا ہے اور غریب غریب تر ہو رہا ہے۔ جناب چیئرمین! یہ trickle down کا جو سفاکانہ فلسفہ ہے کہ امیر کو امیر تر بناتے چلے جاؤ اور ایک وقت آئے گا کہ باران رحمت کے جو قطرے ہم امیروں پر گرا رہے ہیں ان کے چند قطرے trickle کر کے غریبوں تک بھی پہنچ جائیں گے۔ جب تک اس قسم کے فلسفوں کے اندر ہم گھرے رہیں گے اچھا بجٹ نہیں بنے گا اور trickle down کے انتظار میں غریب عوام یہی کہتے رہیں گے کہ

ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن
خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک

گھریلو بچتوں میں انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ کمی واقعی ہوئی ہے۔ کم از کم چار فیصد یہ مانتے ہیں کہ کم ہو گئی ہیں۔ چھوٹے اور درمیانے طبقے کے لئے سرمایہ کاری کا ایک اچھا موقع تھا۔ اب لوگ کتراتے ہیں گھریلو بچتوں کے کرنے سے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نیشنل سیونگز سینٹرز میں جائیں withdrawal کے لئے یا transaction کے لئے، عمل اتنا پیچیدہ بنا دیا گیا ہے کہ جو کام ۱۰ منٹ میں ہوتا تھا اب وہ تین گھنٹے میں ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں جناب! میں چاہوں گا کہ ایک گھریلو خاتون کا خط آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ یہ کم از کم ریکارڈ کا حصہ بنے۔ معلوم ہوا اس سے کہ لوگ نیشنل سیونگز سینٹرز سے آج کل کیوں گھبرا رہے ہیں اور کیوں کترا رہے ہیں۔ اس کی اصلاح کی کوشش کی جائے۔ کم از کم یہ procedure درست کیا جائے تاکہ لوگ نیشنل سیونگز سینٹرز میں آئیں اور اپنی بچتیں جمع کرائیں۔

اسی سلسلے میں ایک اور عوامی مسئلہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو میرے شہر سیالکوٹ سے تعلق رکھتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ foreign exchange earning city ہے اور اس شہر کے ارد گرد جتنے دیہات ہیں وہاں سے بھی لوگ باہر گئے ہوئے ہیں۔ ایکسپورٹ بھی ہوتی ہے اور لوگ باہر جا کر چھوٹی چھوٹی ملازمتیں کر کے بھی زرمبادلہ کماتے ہیں۔ وہ صبح سے شام تک PIA کے آفس میں بیٹھے رہتے ہیں اور شام کو نامراد اور ناکام ہو کر چلے جاتے ہیں کیونکہ ان کی باری ہی نہیں آتی۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اس وقت صرف دو آدمی وہاں کام

کر رہے ہیں جبکہ ۶ آدمیوں کی ضرورت ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ کم از کم دو آدمی فوری طور پر وہاں پر دیے جائیں۔

جناب چیئرمین! اب میں اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے گزارش کروں گا کہ ---

جناب چیئرمین، آپ کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ ذرا مختصر رکھیں۔

سینیٹر پروفیسر ساجد میر، آپ نے مجھے بہت کم وقت دیا ہے۔ میں مزید ۵ منٹ کے لئے درخواست کروں گا۔ بہت کم وقت دیا ہے۔

جناب چیئرمین، یہ جو decide ہوا ہے سب کے لئے وہی چلے گا کیونکہ وقت تھوڑا ہے اور کافی بولنے والے ہیں۔ مہربانی کرکے to the point بات کرکے اس کو مختصر کریں۔ سب نے ایک فیصلہ کیا ہے اب اس پر عمل کرنا چاہیے۔

سینیٹر پروفیسر ساجد میر، حکومت نے جیسے عوام کو سہولت نہ دینے کی قسم کھا رکھی ہے۔ تیل کی قیمتیں اس وقت گزشتہ چھ ماہ کے مقابلے میں اتنی کم کبھی نہیں ہوئیں لیکن اس کا کوئی فائدہ، کوئی benifit اگر ہے تو وہ نہیں دیا جا رہا۔ یہاں اس ملک میں اکنامک سروے گھر بیٹھ کر بنایا جاتا ہے ۔ اعداد و شمار گھڑ لیے جائیں تو وہاں ترقی کی اور اصلاح کی گنجائش بڑی مشکل ہوتی ہے ۔مجھے نہیں معلوم یہ لوگ کہاں گننے کے لیے گئے ہیں کہ اتنے لوگ پہلے ایک کمرے میں رہتے تھے اب دو کمروں میں رہتے ہیں۔ مویشی تک انہوں نے گنے ہیں لیکن انہوں نے اپنے ائرکنڈیشنڈ دفتروں میں بیٹھ کر گن لیے کہ پاکستان میں اتنے مویشی ، اتنے گھر ہیں ، اتنا فلاں ہے اور اس سلسلے میں اعداد و شمار کا کھیل ہے ۔میں کہوں گا کہ کم از کم ایک بات کی جواب طلبی حکومت کو اعداد و شمار بنانے والوں سے کرنی چاہیے۔ اکنامک سروے کے صفحہ ۱۸ پر انہوں نے کہا ہے کہ گزشتہ ایک سال سے جب سے شوکت عزیز صاحب نے اقتدار سنبھالا ہے، اس ملک میں گدھوں کی تعداد میں ایک لاکھ کا اضافہ ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اونٹوں اور گھوڑوں کی تعداد نہیں بڑھی، گدھوں کی تعداد میں ایک لاکھ کا اضافہ ہوا ہے اور یہ بڑی عجیب بات ہے جس پر جواب طلبی کرنی چاہیے اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ ۲۰ لاکھ بکریاں بھی بڑھی ہیں۔ بکریاں بڑھنا بھی بڑا معنی

خیز ہے۔ بکری ایک docile جانور ہے ۔ جس کو لاٹھی والا جہاں چاہے ہانک کر لے جاتا ہے۔ گدھوں اور بکریوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے ' اور ان حالات میں عوام کو اس بجٹ سے کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے اور وہ یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ

غریب ماں باپ کے گھروں میں ہم نے بے شک جنم لیا ہے
یہی خطا ہے میرے خداؤ مگر یہ کوئی خطا نہیں ہے
ہماری اولاد کے مصائب ' تمہاری اولاد تک بھی پہنچیں
ہمارے ذی شان راہنماؤ یہ آرزو ہے دعا نہیں ہے
تمہارے سینے میں دل تو ہو گا جو ہو سکے تو اسی سے پوچھو
کہ تم نے جو قوم سے کیا ہے تمہی کہو ناروا نہیں ہے

بہت شکریہ ' بڑی مہربانی۔

جناب چیئرمین، سید محمد حسین صاحب ۔

سینیٹر سید محمد حسین ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم ' اعوذ باللہ من الشیطن الرجیم ۔ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم۔ عربی۔ جناب چیئر مین! اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جس نے میرے دین سے انحراف کیا تو اس کی معیشت کو میں تنگ کر دوں گا اور اس کی زندگی کو میں تنگ کر دوں گا اور قیامت کے دن ان کو اندھوں کی صف میں اٹھاؤں گا۔ آج کل جو مصیبتیں ہمارے اوپر آ رہی ہیں یہ صرف اور صرف خدا کے دین سے انحراف کا نتیجہ ہے اور خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم اس گناہ کبیرہ سے بچ جائیں۔وزیر خزانہ صاحب نے بجٹ پیش کرکے ایک formality پوری کر دی ہے۔ کیونکہ ہمارا بجٹ دوسروں کے ہاتھ میں' ہمارا نظام دوسروں کے ہاتھ میں ' ہماری تعلیم دوسروں کے ہاتھ میں' ہمارا ملک کا پورا نظام اور اس کا ریموٹ کنٹرول کسی دوسرے کے ہاتھ میں ہے۔ حکومت نے غربت کے خاتمے کے لیے بڑے بڑے دعوے کیے' حالانکہ ورلڈ بنک نے پاکستان کو غربت کے مسئلے پر متنبہ کر دیا ہے کہ آپ کے ملک میں غربت روز بروز بڑھ رہی ہے۔ حکومت نے مہنگائی کی شرح 9.3% بتائی ۔ اس کے برعکس Banks 11.11% بتا رہے ہیں۔

European Banks نے واضح طور پر بتایا ہے کہ پاکستان جو اعداد و شمار شائع کر رہا ہے وہ حقیقت کے منافی ہیں اور یہ عوام کو سبز باغ دکھا رہے ہیں جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں۔ ہمارا current account مسلسل minus میں جا رہا ہے۔ غربت ' بے روزگاری اور افلاس مسلسل بڑھ رہی ہے۔ حکومت کے پاس ملکی ترقی کے لیے کوئی منصوبہ بندی نہیں۔ حکومت کہتی ہے کہ زراعت میں ہم نے ترقی کی ۔ میں کہتا ہوں بارش تو خدا نے برسائی آپ نے کیا ترقی کی۔ آپ تو کوئی منصوبہ نہیں لائے۔ ایک ڈیم بنایا تھا وہ بھی پانی بہا کر لے گیا۔ خود بھی بہہ گیااور دوسروں کو بھی بہا لے گیا۔ بلوچستان میں ڈیم بہہ گیا اور کوسٹل ہائی وے کو ایک ہی بارش نے بہا دیا۔ ہمارے حکمرانوں کو غربت کا کیا پتا۔ غربت کا اگر پتا ہے تو غریب کو پتا ہے' بے روزگاری کا اگر پتا ہے تو بے روزگاروں کو پتا ہے۔ افلاس کا اگر پتا ہے تو مفلسوں کو پتا ہے' ہمارے حکمران تو فائیو سٹار ہوٹلوں میں جا کر اپنے ساتھیوں کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں کہ غربت تو نہیں ہے سارے فائیو سٹار ہوٹل میں آئے ہیں۔ غربت کا پتا غریب سے پوچھیں' غربت کی تکلیف غریب سے پوچھیں۔ فرماتے ہیں

جلتا ہے جن کا خون چراغوں میں رات بھر
ان غمزدوں سے پوچھ کبھی قیمت سحر

آپ فیصلہ نہ کریں' غریب سے پوچھیں کہ غربت کیا ہے' مفلس سے پوچھیں کہ افلاس کیا ہے' بے روزگار سے پوچھیں کہ بے روز گاری کیا ہے؟ پٹرول کے بارے میں ہمارے وزیر خزانہ صاحب فرماتے ہیں کہ اب بھی ہمارے ملک میں پٹرول پڑوس سے سستا ہے۔ میں کہتا ہوں پڑوس آپ انڈیا کو نہ کہیں' پڑوس آپ افغانستان کو بھی کہیں' پڑوس آپ ایران کو بھی کہیں۔ وہاں پر پٹرول اب بھی آپ سے سستا ہے۔

9/11 کے بعد چودہ ارب ڈالر ہمارے ملک میں آئے لیکن ہمارے حکمرانوں نے ویسے ہی ضائع کر دیئے۔ انہوں نے ان ڈالروں کے ساتھ کوئی منصوبہ نہیں بنایا' کوئی تدبیر نہیں سوچی ملکی ترقی کے لیے۔ ہمارا ملک تو چندے پر چل رہا ہے' بھیک پر چل رہا ہے۔ یہ چندہ بند ہوجائے تو پھر وہی حال ہوگا۔ وزیر خزانہ صاحب نے فرمایا کہ 1999ء میں ملک کے defaulter ہونے کی

پھر وہی حال ہوگا۔ وزیر خزانہ صاحب نے فرمایا کہ 1999ء میں ملک کے defaulter ہونے کی باتیں ہو رہی تھیں۔ میں کہتا ہوں چندہ اگر امریکہ نے بند کر دیا تو وہی حالت بلکہ اس سے بھی بد تر حالت پھر ہو جائے گی۔ ہمارے ایک فاضل سینیٹر نے ایوان میں ایک لالٹین دکھائی جو شمسی توانائی پر چل رہی ہے کہ ہمارے ملک نے ترقی کی ماشا اللہ۔ ایک لالٹین دکھا کے کہتے ہیں کہ ہمارے ملک نے ترقی کی، ایک لالٹین ہم نے بنائی شمسی توانائی کی۔ اگر آپ ایک لالٹین دکھاتے ہیں تو میں سو ایسی چیزیں آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ یہاں ایوانوں میں میں آٹو بھی لا سکتا ہوں، دال چنا بھی لا سکتا ہوں اور چینی اور آٹا بھی لا سکتا ہوں کہ یہ مہنگا ہے، دیکھو ذرا۔ یہ کوئی کمال تو نہیں ہے کہ آپ ایک لالٹین دکھائیں۔

مہنگائی کی مثال آج کل اپنے کندھے پر چکی کی مثال بن چکی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے ایک کمزور گدھے پر سوار ہونا چاہا اور اس کے پاس ایک چکی تھی۔ اس نے کہا کہ گدھا تو کمزور ہے۔چکی میں اپنے کندھوں پر اٹھاؤں گا تاکہ گدھے پر اس کا بوجھ نہ پڑے۔ تو وہی مثال آج بھی ہے کہ ٹیکسوں کا بوجھ عوام پر نہیں پڑتا۔ عوام پر کیسے نہیں پڑتا؟ عوام اور غریب پر پڑتا ہے۔ افسوس کی بات ہے۔ میراتھن ریس ہوئی اور پھر بھی ہمارے ملک نے ترقی نہیں کی۔ کتابوں سے جہادی آیات نکال دی گئیں پھر بھی ہمارے ملک نے ترقی نہیں کی۔ ابوالفراج کو امریکہ کے حوالے کر دیا گیا پھر بھی ہمارے ملک نے ترقی نہیں کی۔ وہ کونسی [xxx] ہے جس کو ہم نے برداشت نہیں کیا لیکن۔۔

جناب چیئرمین،ایسے الفاظ استعمال نہ کیے جائیں، ان کو expunge کر دیں۔

سینیٹر سید محمد حسین، نہیں جی !انہوں نے خود کہا کہ میراتھن ریس ملکی ترقی کا سبب ہے۔ جناب والا! ہمارا ملک کیسے ترقی کرے گا جب کہ ہمارے بڑے بڑے Ministers کے accounts دوسرے ملکوں میں ہیں، منافع باہر کے ملک لے رہے ہیں، افسوس کی بات ہے۔ ہمارے FATA میں یہ رواج ہے کہ مرغی ہماری ہو اور انڈے کسی دوسرے گھر میں دیتی ہو تو

\+ [(xxx) Words expunged by the orders of Mr. Chairman.]

اس مرغی کو ہم ذبح کر دیتے ہیں۔ Minister ہمارا ہے، وزیر ہمارا ہے اور account کسی دوسرے ملک میں کھولتا ہے، اپنے ملک پر اس کو اعتماد نہیں ہے۔ ہمارے بڑے اس طرح کرتے ہیں تو عوام سے کیا گلہ ہے۔ فرماتے ہیں۔

کفر از کعبہ برخیزد کوجان مانند مسلمانی

جب یہ لوگ اس طرح کرتے ہیں تو دوسرے پر کیا ملامت۔ جناب چیئرمین! اگر ہم آئندہ بھی اس طرح ہوں گے اور ہماری یہی حالت ہو گی، ہم یہ سوچیں گے کہ ہمارا ملک ترقی کرے گا تو ایں خیال است و محال است و جنوں۔جناب چیئرمین! شکریہ۔

جناب چیئرمین: بی بی یاسمین شاہ۔

سینیٹر بی بی یاسمین شاہ، بسم اللہ الرحمٰن الرحیم۔ جناب چیئرمین! thank you. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا۔ جناب چیئرمین! میں جناب وزیر اعظم شوکت عزیز صاحب کو اور وزیر خزانہ عمر ایوب کو 2005-06 کے لئے اتنا شاندار بجٹ پیش کرنے پر مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ جناب! یہ بجٹ فلاحی بھی ہے، ترقیاتی بھی ہے اور عوام کے تمام طبقات کے بھی مطابق ہے۔ دراصل یہ بجٹ صدر جنرل پرویز مشرف صاحب کی مدبرانہ صلاحیتوں اور سیاسی، عالمی پالیسیوں کی وجہ سے ممکن ہوا ہے۔ جناب! اس بجٹ میں دوسری باتوں کے علاوہ پانی پر خاص توجہ دی گئی ہے۔ موجودہ حکومت نے پانی کے ضیاع کو روکنے کے لیے water courses اور کینالوں کو پکا کرنے یعنی lining پر 2004-05 میں چار ارب روپے خرچ کئے اور 2005-06 کے لیے چھ ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ اس سے دس ہزار water courses پکے ہوں گے اور 25% زمین آباد ہو گی اور جب یہ منصوبہ مکمل ہو گا تو 8 million acre feet پانی کی بچت ہو گی۔ جناب! ایک طرف روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے تو دوسری طرف کسانوں میں خوشحالی آئے گی۔ حکومت نے تنخواہ دار طبقے کی مالی پریشانیوں کو مدنظر رکھتے ہوئے 23 فیصد سے 29 فیصد تک تنخواہوں میں اضافہ کیا ہے جس پر 25 ارب روپے خرچ ہوں گے۔ میں صدر مملکت جناب پرویز مشرف کی ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے بدین میں LBOD

کو rehabilitate کرنے اور سکھر بیراج کی مرمت کے لئے army کے انجینیئروں اور جوانوں کو depute کیا اور سندھ میں دونوں projects boost کر کے سندھ کی زراعت کو بہت بڑے نقصان سے بچا لیا۔

جناب! میری حکومت کی کامیاب مالیاتی اور معاشی پالیسیوں کی وجہ سے آج عالمی ادارے ہم پر اعتماد کر رہے ہیں۔ بجٹ 06-2005 کی خاص خاص باتوں پر میں اپنی رائے کا اظہار کروں گی کیونکہ وقت بہت کم ہے، اس لئے میں ایک منٹ ضائع کئے بغیر جلدی جلدی چاہوں گی کہ جتنے میرے points ہیں، میں یہاں بیان کروں۔ جناب چیئرمین! میرے خیال میں سائنس اورمنطق کا اصول ہے کہ کوئی بھی system اس وقت تک درست یا صحیح طور پرنہیں چلے گا جب تک کہ اس پر self criticism اور scientific analysis کے اصولوں کا اطلاق نہیں ہوگا۔ ہمیں اپنی قوم، عوام اور ملک کی بھلائی اور بہتری کی خاطر ان اصولوں کو اپنانا ہو گا۔ Sir, بجٹ 06-2005 میں خالص اندرونی وسائل 758 ارب روپے، غیر ملکی وسائل 212 ارب روپے یعنی غیر ملکی قرضے اور امداد ملا کر 980 ارب روپے ہوتے ہیں۔

جناب! اب اخراجات پر آتے ہیں، ہمارے جاری اخراجات ہیں 826 ارب روپے، ترقیاتی اخراجات 272 ارب روپے، کل اخراجات ملا کر لگ بھگ کوئی 1100 ارب بنتے ہیں۔ اس طرح آمدن اور اخراجات میں 118 ارب روپے کا gap ہے اور اس کو ہم بجٹ خسارہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب یہ خسارہ پورا کرنے کے لئے حکومت کی تجویز ہے کہ privatization proceed سے 20 ارب روپے لیں گے اور بنکوں سے قرضہ 98 ارب روپےلیں گے اور اس سے جو 118 ارب روپے کا خسارہ ہے اسے پورا کریں گے۔ سال 06-2005ء کے لئے زرعی اخراجات میں 18% تک اضافہ کیا گیا۔ میرا خیال ہے کہ اگر ہم کفایت شعاری سے کام لیتے اور اخراجات میں مناسب کمی کرتے تو اس خسارے سے بچ سکتے تھے۔

جناب! ترقیاتی بجٹ میں 34% کا اضافہ ہوا ہے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ کوئی بھی ملک اسی وقت ترقی کرے گا جب ترقیاتی بجٹ کے لئے فاضل فنڈ دیئے جائیں گے۔ یہ اضافہ اس وقت اور زیادہ خوش کن اور اچھا ہوتا جب ہم اپنے پیدا کردہ وسائل سے پورا کرتے۔ ہمیں بجٹ

میں 118 ارب روپے کے خسارے کا سامنا ہے تو دوسری طرف 212 ارب روپے کے غیرملکی قرضہ جات اور امداد حاصل کرنی ہو گی۔ اس طرح 330 ارب روپے کا مجموعی خسارہ یا وسائل میں کمی کا سامنا ہے۔ میری ناقص رائے میں اس سے تو بہتر تھا کہ ہم PSDP کے 2005ء اور 2006ء میں غیرضروری اخراجات اور ناقص منصوبہ جات میں کمی کرتے اور اپنے وسائل تک محدود رہتے تو یہ ملک اور قوم کے زیادہ مفاد میں ہوتا۔ بہرحال جناب! میں کوئی expert نہیں ہوں، ہمارے قابل احترام وزیر اعظم جو کہ ماہر ہیں انہوں نے ضرور کچھ اچھا ہی سوچ کر کیا ہے اور ہمیں اعتماد ہے کہ اس میں ملک و قوم کی بھلائی ہو گی۔

جناب! حکومت نے textile industry کو boost دینے کے لئے textile machinery پر ڈیوٹی ختم کر دی ہے۔ اس سے نہ صرف یہ انڈسٹری ترقی کرے گی بلکہ ہماری export بھی بڑھے گی اور کسان کو بھی فائدہ ہو گا۔ ہمارے GDP میں 8.4 کی growth ہوئی ہے، یہ بہت بڑی achievement ہے۔ ہماری national investment گیارہ ارب روپے تک ہونے کا اندازہ ہے اور shares تقریباً 10 ارب روپے تک ہونے کا اندازہ ہے۔ ہماری GDP 2004-05 میں 45 کھرب تھی اور 2005-06ء میں بڑھ کر 48 کھرب ہو گئی ہے، 3 کھرب کا اضافہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ملک خوشحالی کی طرف بڑھ رہا ہے۔

ہماری fiscal and monetary policies میں واضح تبدیلی ہوئی ہے۔ اس سے ہمارے tax system میں انقلابی reform ہوئی ہے، اس سے پوری معیشت کے ڈھانچے پر خوشگوار اثر پڑے گا اور انشاء اللہ ملک صدر جنرل پرویز مشرف صاحب کی قیادت میں دن دگنی اور رات چوگنی ترقی کرے گا۔

جناب! اب ہم subsidies پر آتے ہیں۔ بجٹ 2005-06ء میں 72 ارب روپے اس مد میں خرچ ہوں گے۔ اس ملک میں زرتلافی کا ہمیشہ غلط استعمال ہوا ہے، اس سے عام اور غریب آدمی کو کبھی فائدہ ہوا ہے اور نہ ہو گا۔ یہ سارا پیسہ mismanagement، غلط منصوبہ بندی اور corruption کی نظر ہو جاتا ہے۔ PCP اور KESC اور واپڈا کے حکام اس کے main beneficiary ہیں۔ زرتلافی کا فائدہ عوام تک پہنچتا ہی نہیں ہے۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ ایک

طرف ہم sugar import کرتے ہیں اور دوسری طرف PCP کو 60 کروڑ sugar export کرنے کے لئے دے رہے ہیں۔ اگر ملک میں sugar فاضل ہے تو import کیوں کرتے ہیں اور اگر کم ہے تو export کیوں کرتے ہیں۔ جناب! یہ منطق میری سمجھ سے باہر ہے۔ گندم کی آمد پر 3 ارب 30 کروڑ روپے خرچ کرنے ہوں گے، اس سے یہ بہتر نہیں تھا کہ یہ رقم ہم اپنے کسانوں پر خرچ کرتے تاکہ وہ زیادہ گندم پیدا کرتے اور ملک میں غربت بھی کم ہوتی اور ہمارا کسان دو وقت کی روٹی پیٹ بھر کر کھاتا۔

جناب! سندھ کے علاقے بدین، میرپور خاص اور عمرکوٹ میں، آپ کا بھی تعلق سندھ سے ہے اور آپ کو بھی ضرور اس چیز کا پتا ہو گا کہ ایشیا کی سب سے بہترین کوالٹی کی مرچ پیدا ہوتی ہے، اس وقت ہمارے پاس 11 ہزار بوریاں پڑی ہوئی ہیں لیکن اس کے باوجود ہم مرچ انڈیا سے منگوا رہے ہیں جس کی کوالٹی ناقص ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ PCP کے اکابرین ہندوستان سے مرچ import کیوں کر رہے ہیں جو کہ بہت ہی ناقص کوالٹی کی ہے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہمارے پاس مرچ کی اتنی اچھی فصل ہے تو پھر ہم باہر سے کیوں منگوائیں۔ اس سے سندھ کا کسان تباہ ہو رہا ہے۔

جناب! اب میں NFC Award پر بات کروں گی۔ NFC Award پر میں صرف یہ کہوں گی کہ یہ چاروں صوبوں کا مسئلہ ہے اور کسی ایک کا نہیں ہے۔ انشاء اللہ یہ مسئلہ جلدی حل ہو جائے گا اور چاروں صوبوں کے مفاد میں ہو گا۔ Agriculture کے بارے میں، میں کہوں گی کہ یہ شعبہ پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ یہ ملک کی 70% آبادی کو روزگار فراہم کرتا ہے اور ان کا ذریعہ معاش ہے۔ لیکن اس پر آج تک کوئی مناسب توجہ نہیں دی گئی۔ بجٹ میں جو مراعات تجویز کی گئی ہیں میری گزارش ہے کہ ان پر سختی سے عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ Crops کی آمدنی اور اخراجات کا اندازہ output and input کی قیمتوں پر ہوتا ہے۔ پاکستان میں ہر فصل کی input اخراجات output کی آمدن سے زیادہ ہیں۔ کسانوں کو ان کی صحیح اجرت نہیں ملتی جو کہ بہت ضروری ہے۔

جناب! ٹریکٹر کی درآمدی ڈیوٹی میں کمی کی گئی ہے لیکن ملک میں تیار ہونے والے

ٹریکٹروں پر کوئی رعایت نہیں دی گئی جو بہت ضروری ہے اور میری گزارش ہے کہ اس میں رعایت دی جائے۔ حکومت کو چاہیے کہ یہ ٹاسک زرعی ترقیاتی بنک کو دیا جائے کہ وہ ٹریکٹر امپورٹ بھی کرے اور کسانوں کو آسان شرائط کے قرضوں کے ذریعے دے۔

جناب چیئرمین، وقت ختم ہو رہا ہے، جلدی ختم کریں۔

سینیٹر بی بی یاسمین شاہ، دو منٹ اور دے دیں، بڑے ضروری points ہیں جو میں یہاں raise کرنا چاہتی ہوں۔ میں گزشتہ سال بھی بجٹ کی تقریر میں یہ بات ریکارڈ پر لائی تھی کہ جب تک کسانوں کو خالص اور معیاری بیج اور کیڑے مار ادویات اور بہتر مارکیٹ تک رسائی نہیں ہوگی، زرعی output کی مناسب قیمت کے انتظامات نہیں ہوں گے اس وقت تک ملک میں نہ تو حقیقی ترقی ہوگی اور نہ غربت دور ہوگی۔ اس ضمن میں حکومت کو ضروری اقدامات کرنے چاہئیں۔

جناب! میں Electricity پر بات کروں گی کہ وزیر صاحب نے فرمایا ہے کہ ۱۲ ہزار دیہاتوں میں بجلی دی جائے گی لیکن اس کی وضاحت نہیں کی گئی ہے ------

جناب چیئرمین، بس ایک منٹ میں ختم کریں۔

سینیٹر بی بی یاسمین شاہ، بس ایک منٹ۔ جناب! اس کا صوبائی break up کہاں سے ہو گا اور village selection کیسے ہو گی؟ اس کی وضاحت ہو جائے تو بڑی مہربانی ہو گی۔

جناب! آپ کو یاد ہوگا کہ ایک پروگرام ہوتا تھا کچھ عرصہ پہلے "ڈیرہ پروگرام" جو ختم کر دیا گیا تھا۔ میری حکومت سے التجا ہے کہ یہ پروگرام جلدی دوبارہ reschedule کیا جائے۔ چونکہ اس پروگرام کے لئے zero budget رکھا گیا ہے لیکن اس کی monitoring کے لئے دو کروڑ رکھے گئے ہیں تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیوں رکھے گئے ہیں۔ اس پر زیادہ رقم رکھی جائے اور اس کو دوبارہ start کیا جائے۔

جناب! کل یہاں محترمہ بہن رخسانہ زبیری صاحبہ نے بات کی جو قدرتی وسائل و پٹرولیم کی کمیٹی میں میرے ساتھ ممبر ہیں تو انہوں نے petroleum prices کی بات کی تھی۔ میں اس پر یہ کہوں گی کہ اس کمیٹی کی میٹنگز ہوئی ہیں اور ان کی سفارشات ابھی مکمل کرنی ہیں۔ چونکہ

اس وقت pricing formula ہے ۔ اس کے تحت وزارت پٹرولیم نے ایک فارمولا دیا ہوا ہے جس کی بنیاد پر OGRA قیمتوں کا تعین کرتی ہے ۔ حکومت کو اس بات کا کریڈٹ ملنا چاہیے کہ جب crude product کی قیمتیں باہر اتنی اونچی گئی تھیں اس وقت پچاس بلین روپے پانچ مہینے کے اندر دئیے تا کہ پٹرولیم کی قیمتیں پاکستان کی مارکیٹ میں ایک حد کے اندر رہیں ۔

جناب چیئرمین: بس ختم کریں، آپ کا آدھا منٹ رہ گیا ہے۔ جو فیصلہ ہوگیا ہے اس پر سختی سے عمل کیا جانا چاہیے ۔

سینیٹر بی بی یاسمین شاہ: شکریہ۔ جناب! میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اس کی نشاندہی کر رہے ہیں ۔ اور انشاء اللہ جہاں بھی لوگوں کو ریلیف دیا جا سکتا ہے اور ہم نے سفارشات دے دی ہیں اور ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ اوگرا پٹرولیم کی قیمتوں کا تعین کرے تاکہ عوام میں کسی قسم کا شک پیدا نہ ہو ۔

جناب ! یہاں چار پانچ دنوں سے کافی چیزوں کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں۔ میری اپوزیشن کے ممبران سے یہ گزارش ہے کہ مہربانی کرکے آپ پارٹی کے point of view سے نہ سوچیں ۔اپنی ذاتیات کو چھوڑ کر، ایک طرف رکھ کر ایک پاکستانی ہونے کے ناتے اس بجٹ کو ذرا غور سے دیکھیں ۔ اس کے ...negative points ٹھیک ہے یہ بجٹ آسمان پر فرشتوں نے نہیں بنایا ہے ۔ یہ بہت بڑے ملک کا بہت بڑا بجٹ ہے اور اسی زمین پر انسانوں نے بنایا ہے ۔ لہذا تھوڑا آگے پیچھے کرکے جو اچھی سفارشات ہوسکتی ہیں وہ مہربانی کرکے حکومت کو سفارش کریں ۔ حکومت کو زیادہ تنقید کا نشانہ نہ بنائیں ۔

جناب ! سانگزئی صاحب ادھر نہیں ہیں لیکن میں ان سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں ۔ کل انہوں نے بڑی اچھی شاعری وزیر اعظم صاحب کے بیٹھے ہونے پر کی تھی۔ میں ان کی شاعری سے متاثر ہوئی تھی ۔ تو ان کے لئے میں نے کچھ شعر لکھے ہیں وہ پیش کرنے کی اجازت چاہتی ہوں۔

جناب چیئرمین، چلیں کرلیں ۔

سینیٹر بی بی یاسمین شاہ : سانگڑئی کے کیا کہنے' اس کی بڑی ٹور ہے

کہتا کچھ اور ہے کرتا کچھ اور ہے

مانگتا وہ گیس ہے بجلی بھی اسے قبول ہے

ایم ایم اے کا ممبر ہے آواز میں بہت زور ہے

بھاری بھرکم جسم ہے' ڈاکٹری اسکا زعم ہے

آدمی نیک ہے پر شاعری اس کی بور ہے۔

شکریہ۔

جناب چیئرمین: مسز سعدیہ عباسی۔

سینیٹر سعدیہ عباسی: شکریہ جناب چیئرمین! آپ نے مجھے اس پر بات کرنے کا موقع دیا۔ بہت سی باتیں ہمارے ممبران نے کہہ دی ہیں اب ان کو repeat کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میرے صرف چند پوائنٹس ہیں جن کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گی۔ یہ جو بجٹ ہے اس میں نہ تو غریب کی بات ہے' نہ اس میں مہنگائی کی بات ہے' نہ اس میں بے روزگاری کی بات ہے اور نہ ہی اس میں غربت کی بات ہے۔ ان چیزوں کے اوپر تو کوئی بات ہی نہیں کی گئی۔ گاڑی جو چالیس لاکھ کی لیتا تھا اب وہ تیس لاکھ کی لے گا۔ اس کی زندگی پر کوئی فرق نہیں پڑتا' تیس لاکھ ہو یا چالیس لاکھ۔ بات اگر گاڑی کو سستی کرنے کی تھی تو اس ساڑھے پانچ لاکھ کی گاڑی کو سستا کرتے جو پاکستان کے مڈل کلاس والوں کی گاڑی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آج بھی گاڑیاں ڈھائی لاکھ اور تین لاکھ میں بک سکتی ہیں اگر application of mind ہو' اگر پاکستان کی automobile industry کا hold ان کے پاس ہو' اس کا کنٹرول ہو۔ انہوں نے ایک مافیا بنا لیا ہے' وہ بنکوں کے ساتھ مل کر قیمتیں بڑھاتے ہیں اور نئے نئے طریقے نکالتے ہیں کہ یہ عام لوگوں کے لئے مشکل سے مشکل ہو جائے۔

جناب! pro-employment, pro-social sector, pro-development and pro-poor اس بجٹ میں ان sectors کے بارے میں تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ حقیقت تو یہ

ہے کہ پاکستان کے جو social indicators ہیں وہ گرتے ہی جا رہے ہیں۔ Health اور education دو اہم sectors ہیں جن کے اوپر خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ پاکستان کا جو مرد over 52 ہے اس کو جو دو بیماریاں ہیں وہ diabetes یا heart disease ہیں۔ دونوں کی دواؤں کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں۔ خدارا! اس کو rationalise کریں' اس کا کوئی طریقہ کار نکالیں کہ لوگوں کو اس کا benefit جائے۔ ابھی بھی یہی حال ہے۔ جہاں تک inflation کا تعلق ہے تو پچھلے سال دیکھ لیں اور اس سال میں دیکھ لیں کہ کتنا فرق ہے قیمتوں میں۔ Inflation بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ یہ نہیں کہ کنٹرول میں ہے۔ یہ پاکستان کا سب سے بڑا issue ہے۔ پاکستان کی مڈل کلاس کو بالکل تباہ کر دیا گیا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ GDP جتنی مرضی اوپر چلی جائے یا کچھ اور جدھر مرضی چلا جائے' پاکستان میں bubble economy ہے۔ ایک stock exchange ہے اور پراپرٹی ہے جو اتنی بڑھ گئی ہیں کہ مکان بنانا عام آدمی کے بس سے باہر ہوگیا ہے۔ پاکستان کے سٹاک ایکسچینج کو چار brokerage houses چلا رہے ہیں۔ کیا اس کو ترقی کہتے ہیں؟ کیا اس کو investment کہتے ہیں؟ کیا اس کو development کہتے ہیں؟

جناب والا! اس بجٹ میں این ایف سی کے حوالے سے بہت کچھ کہا جا چکا ہے۔ یہ بہت اہم issue ہے۔ یہ تیسرا سال جا رہا ہے کہ ہم سب اس پر اتنا زیادہ emphasize کر رہے ہیں اور حکومت اس کو حل نہیں کرسکی۔ پانی کا issue بہت اہم issue ہے۔ ایک ہم nature پر depend کر سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ ہمیں resources develop کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ اس کے لئے consensus کی ضرورت ہے۔ ساری سیاسی پارٹیوں اور سارے صوبوں کے consensus کی ضرورت ہے۔ اس کی طرف حکومت کو چاہیے کہ توجہ دے کیونکہ یہ crisis بن جائے گا۔ کل جناب بلور صاحب نے کہا کہ ٹریکٹر کا جو issue ہے کہ دس ہزار ٹریکٹرز کی import کی اجازت دی گئی ہے تو انہوں نے کہا چاروں صوبوں میں یہ ہونا چاہیے۔ میں اس کی تائید کرتی ہوں اور ہم حکومت کو چیلنج کرتے ہیں کہ چاروں صوبوں میں یہ سہولت دی جائے۔ چاروں صوبوں میں ڈھائی ڈھائی ہزار ٹریکٹر کی امپورٹ کی اجازت دی جائے' وہیں کمپنیاں بنیں' وہیں ان کو اجازت ہو لیکن یہ ایک مخصوص گروپ کو فائدہ دینے کے لئے کیا گیا ہے اور ایک دن

یہ خبر سامنے آئے گی کہ یہ کس کو فائدہ دینے کے لئے کیا گیا ہے، لیکن ہم اس حکومت کو چیلنج کرتے ہیں کہ چاروں صوبوں میں یہ سہولت دی جائے، کیوں صرف ایک صوبے میں دی جائے یا ایک مخصوص گروپ کو کیوں دی جائے۔ یہاں پر monopoly بن رہی ہے اور اس کی طرف زیادہ emphasis ہے، اس کو ختم کیا جائے۔

جہاں تک small and medium enterprises development کا تعلق ہے وہ کسی بھی حکومت کی انڈسٹریل پالیسی کی backbone ہوتی ہے۔ اس بجٹ میں اس کے بارے میں کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ اس کو کیسے develop کیا جائے گا۔ آج تک small and medium enterprises development پالیسی کا اعلان ہی نہیں ہوا ہے۔ آپ آج کا نیشن اخبار دیکھیں اور اس کا back page دیکھیں، میں تو حیران ہوگئی ہوں کہ ہمارے ملک کی انڈسٹری کے وزیر کا انٹرویو وہاں پر چھپا ہوا ہے۔ وہ پتا نہیں انٹرویو ہے یا وہ اشتہار ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ مجھے پیسے بہت اچھے لگتے ہیں۔ پیسے بڑے ضروری ہوتے ہیں، میرے پاس ہمیشہ پیسے ہوتے ہیں، پیسے ہوں گے تو ہم فرسٹ کلاس میں travel کرسکتے ہیں۔ یہ شرمناک ہے کہ جس ملک میں اتنی غربت ہو، جس ملک میں اتنی بے روزگاری ہو، جس ملک میں اتنی مہنگائی ہو، جس ملک میں middle class کو ختم کیا جا رہا ہے، کیا ضرورت ہے کہ آپ اپنی تشریح اس طرح کریں۔ آج کا وہ اشتہار آپ بھی دیکھیں۔ آپ بھی حیران ہوں گے کہ کیا یہ باتیں ٹھیک ہیں، کیا یہ باتیں جائز ہیں۔ اس منسٹر کی، اس حکومت کی جو profligacy ہے، اس کے بارے میں ان کو سوچنا چاہیے۔ لوگ اس کو resent کر رہے ہیں۔ اس ملک کے منسٹر جب گزرتے ہیں تو ان کے آگے پیچھے گاڑیاں اس طرح ہوتی ہیں جس طرح عرب ملکوں کے شہزادے جا رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے صدر کی motorcade ہمارے آرمی کے جرنیلوں کی motorcade یا ہمارے وزیر اعظم کی motorcade مرسیڈیز گاڑیاں، یہ غریب ملک ہے، کچھ تو احساس کریں، کوئی تو شرم آنی چاہیے۔ یہ کہاں کے طریقے ہیں۔ دس لاکھ کی گاڑی میں کیا یہ لوگ نہیں بیٹھ سکتے۔ ڈھائی ڈھائی کروڑ کی گاڑیوں میں بیٹھنا چاہیے۔

جہاں تک ٹیکسٹائل انڈسٹری کو یا کسی اور انڈسٹری کو جو مراعات دی گئی ہیں حقیقت

تو یہ ہے کہ پاکستان دنیا کا fourth largest cotton producer ہے' پاکستان کی زیادہ تر ایکسپورٹ ٹیکسٹائل based ہے' وہ تو اس سے کئی گنا زیادہ جا سکتی ہے۔ پچھلے سال جب انہوں نے بارہ ملین ڈالر کا figure دیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ I hope اگلے سال ہم چوبیس ملین پر پہنچیں گے۔ بنگلہ دیش جیسا ملک جو پاکستان سے cotton import کرتا ہے وہ اپنے ملک میں اس کو استعمال کر کے اس کی product export کرتا ہے اور ان کی ایکسپورٹ ہم سے زیادہ ہے۔ تو یہ کہہ دینا کہ boost ہوگا' boost ہونا چاہیے' لیکن industry کو بھی invest کرنا چاہیے' infrastructure میں invest کرنا چاہیے' ٹیکنالوجی میں invest کرنا چاہیے۔ production کو بڑھانا چاہیے۔ جو سب سے اہم حصہ ہے industry develop کرنے کا یا poverty کو کم کرنے کا وہ ہے induction of the women into the work force. اور ٹیکسٹائل ایک ایسا سیکٹر ہے جس میں خواتین کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دنیا کے تمام ممالک میں کئی shifts چلتی ہیں اور ان میں خواتین کام کرتی ہیں۔ ہمارے بھی exporters چاہتے ہیں کہ ہم یہ کریں لیکن صرف خواہشوں سے بات نہیں بنتی ان کو اس کے لئے کام کرنا چاہیے اور جہاں خواتین کام کریں گی' جہاں ان کے لئے روزگار ہوگا وہاں ہر خاندان کے حالات improve کریں گے۔ ہمارے محنت کش جو کام کرنے والے ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم امیر ہو جائیں وہ تو صرف یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کام کے لئے opportunity ہو۔ ہمارے پاس وہ مواقع ہوں کہ ہم کام کر سکیں۔ انہوں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ ہم امیر سے امیر تر ہوتے جائیں۔ اگر ہم تین ہزار' چار ہزار یا دس ہزار کی نوکری کریں تو اس سے ہم امیر ہو جائیں گے؛ صرف یہ ہے کہ opportunity کی بات ہوتی ہے کہ وہ کام کر سکیں۔

جہاں تک ہماری انڈسٹری کا تعلق ہے' ہمارے industrialists کا تعلق ہے ان کی ایک obligation ہے اور ان کی ڈیوٹی ہے اور حکومت سب کچھ نہیں کرسکتی۔ وہ infrastructure کے لئے ہمارے social sector میں contribute کریں۔ ان کی contribution meaningful ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ وہ دس لاکھ دے دیں یا بیس لاکھ دے دیں بلکہ اس کے لئے ایک private public partnership law draft کرنا چاہیے۔ ان کا فرض

ہے کہ وہ ہمارے infrastructure development میں اور ہمارے social sector میں contribute کریں۔ ان کو چاہیے کہ windfall profit کی بجائے وہ دوبارہ سوسائٹی میں invest کریں۔ وہ اپنے employees کی education میں invest کریں۔ ان کے بچوں کی skill trainingمیں invest کریں۔ ان کی housing میں invest کریں۔ ان کی healthپر invest کریں۔ اس culture کو سارے پاکستان میں develop کرنا چاہیے۔ مجھے کئی exporters ملے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ دیکھیں! فیصل آباد میں کتنے برے حالات ہیں۔ میں نے کہا کہ اگر فیصل آباد کا برا حال ہے تو آپ بھی تو سارے فیصل آباد میں رہتے ہیں۔ ڈھائی ڈھائی کروڑ روپے کی گاڑیاں آپ چلاتے ہیں۔ آپ لوگوں کا life style تو امریکہ کے امیر لوگوں کو بھی exceed کرتا ہے۔

جناب چیئرمین: وقت کا خیال رکھیں۔ وقت ہو رہا ہے۔

سینیٹر سعدیہ عباسی: جناب! میں صرف تین منٹ لوں گی۔ میں صرف بلوچستان، صوبہ سرحد اور سندھ جو کہ ہمارے چھوٹے صوبے ہیں ان کے بارے میں بات کروں گی۔ یہاں بہت باتیں ہوئیں کہ بلوچستان والے کیوں باتیں کرتے ہیں۔ جناب! حقیقت یہ ہے کہ میں آج سے چار مہینے پہلے کمیٹی میٹنگ کے سلسلے میں زندگی میں پہلی دفعہ کوئٹہ گئی تھی۔ آپ یقین کریں کہ وہاں کی بدحالی کو دیکھ کر میں دنگ رہ گئی۔ میری خواہش ہے کہ جس طرح اسلام آباد کا شہر ہے اسی طرح کوئٹہ کو بھی develop کیا جائے۔ کوئی حکومت اس کی طرف توجہ تو دے۔ جو خواب ہوتے ہیں وہ پورے بھی ہو جاتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ جہاں آپ ایک Project بنائیں گے وہاں investment ضرور جاتی ہے، وہاں پیسہ ضرور جاتا ہے۔ Project finance کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا لیکن ایک political will ہونی چاہیے کچھ کرنے کے لئے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بلوچستان کی جو بدحالی ہے پچاس سال سے بھی زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے اس کو دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتا ہے۔

جناب چیئرمین! میرا بچپن صوبہ سرحد میں گزرا۔ آج جو صوبہ سرحد کا حال ہے وہ تو آج

سے تیس سال پہلے بھی نہیں تھا ؛ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ ایک طرف کتنی ترقی نظر آتی ہے ' جہاں سڑکیں بھی ہیں ' جہاں lights بھی ہیں ' جہاں زندگی کے اور آرام بھی ہیں اور ایسے بھی علاقے ہیں جہاں سے انسان نکل کر شکر کرتا ہے کہ چلو یہاں سے نکلیں اور اپنے اسلام آباد میں جا کر بیٹھیں کیونکہ وہاں بڑا آرام ملتا ہے ۔ جناب چیئرمین! ان چیزوں کی طرف حکومت کو توجہ دینے کی ضرورت ہے ۔ اگر بلوچستان والے چیخ و پکار کر رہے ہیں تو وہ بالکل جائز ہے ۔ ہم ان کے جذبات کی قدر کرتے ہیں ۔ وہ استحصال کے خلاف بول رہے ہیں ' وہ ناانصافیوں کے خلاف بول رہے ہیں۔ شکریہ آپ کا ۔

جناب چیئرمین: شکریہ ۔ تشریف رکھیں ۔ جی ۔

سینیٹر میاں رضا ربانی ، جناب چیئرمین! بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس طرف سے بھی اور اس طرف سے بھی ممبران بجٹ کے اوپر تقریر کر رہے ہیں اور بہت سی تجاویز آ رہی ہیں لیکن ایک بھی Minister یہاں پر موجود نہیں ہے ۔ کوئی بھی notes نہیں لے رہا ۔ حکومت کا یہ حال ہے کہ سینیٹ کو اتنا non-serious وہ لے رہی ہے کہ یہاں general budget debate چل رہی ہے اور ایک بھی وزیر یہاں پر نہیں بیٹھا ہوا ہے ۔ پھر آپ House adjourn کر دیں ۔ فائدہ کیا ہے؟ جتنی بھی تجاویز اپوزیشن کی طرف سے آئی ہیں یا حکومت کی طرف سے ابھی آ رہی ہیں ۔یاسمین بی بی نے اتنی تجاویز دیں and there is not a single minister who is present here. اتنی لمبی چوڑی فوج وزیروں کی انہوں نے رکھی ہوئی ہے اور ان کو ایک ارب سات کروڑ کی گاڑیاں ابھی بجٹ میں لے کر دی ہیں اور یہاں پر کام کرنے کے لئے وہ نہیں آ رہے ۔

جناب چیئرمین ، انیسہ زیب صاحبہ موجود ہیں ' احمد علی صاحب موجود ہیں اور مجھے Minister of State for Finance نے assure کیا and the notes or the minutes I assure you we can note نیشنل اسمبلی کا بھی اجلاس چل رہا ہے ۔

سینیٹر میاں رضا ربانی ، نیشنل اسمبلی میں تو سارے نہیں بیٹھے ہوئے ۔ وہاں کورم

کا مسئلہ چل رہا ہے ۔یہاں پر ابھی ایک انیسہ آئی ہیں وہ بھی شور مچانے پر ۔

جناب چیئرمین، نہیں وہ ویسے بھی یہاں موجود تھیں ۔

Senator Mian Raza Rabbani: And throughout this session, throughout the debate the Finance Minister has not bothered to come. He has come for five minutes, he has been here for five or ten minutes at the maximum but otherwise he has not bothered to sit here.

Mr. Chairman: I read out about Mr. Omer Ayub that he will be shutlling between here, the Standing Committee on Finance of Senate and the National Assembly and his people will be here taking notes. I announced that in the House also.

Senator Mian Raza Rabbani: Please, you look at the gallery, the galleries are empty. There is not a single official of the Finance Ministry who is present and who is taking notes.

جناب چیئرمین ، سامنے بیٹھے ہوئے ہیں there are two gentlemen. وسیم
صاحب ! آپ ۔

سینیٹر وسیم سجاد، جناب والا! وہ بھی بیٹھے ہیں اور اس کے علاوہ میرے خیال میں
I must clarify کہ جو بھی recommendations اس ایوان کی جانب سے Finance
Committee کو دی گئی تھیں تو Finance Committee میں بہت close interaction ہو
رہا ہے Minister کے ساتھ، CBR کے Members کے ساتھ اور وہاں پر تفصیلی بات چیت ہو
رہی ہے ۔ میرے خیال میں یہ کہنا درست ہوگا کہ حکومت بالکل باخبر ہے ،جو بھی تجاویز آ رہی
ہیں ان پر غور ہو رہا ہے اور انشاء اللہ اس کا کوئی نتیجہ بھی سامنے آجائے گا جب یہ سفارشات ایوان
میں آجائیں گی ۔

سینیٹر میاں رضا ربانی ، Utmost respect to honourable Leader of the.
House ا گر مسئلہ صرف recommendations کا ہے تو پھر یہ جو ہم پچھلے تین دنوں سے exercise کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں ؛ وہ آپ کے بھی وقت کا زیاں ہے ' ایوان کے وقت کا بھی زیاں ہے اور ممبران کے وقت کا بھی زیاں ہے۔ اگر ان کی تقاریر سے حکومت نے کوئی مثبت تجاویز نہیں اٹھانی اور صرف ان تجاویز کو دیکھنا ہے جو Finance Committee کے پاس جا رہی ہیں تو پھر یہ پوری exercise in futility ہے ۔

Then rop up the House's right now and then we will meet when the recommendations are laid on the floor. Then why are we having a general discussion.

سینیٹر وسیم سجاد، جناب والا! میرا خیال ہے کہ میں صحیح سمجھا نہیں سکا۔ میں نے کہا کہ افسران یہاں موجود ہیں ' notes لے رہے ہیں ' اس کے علاوہ جو تفصیلی بات چیت ہو رہی ہے وہ کمیٹی میں ہو رہی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ بحث لاحاصل ہے۔

Mr. Chairman: But do convey that some Minister should be here, divide between the National Assembly and here if they are sitting concurrently.

سینیٹر وسیم سجاد، جناب والا! بہت مفید تجاویز آئی ہیں ' نوٹ ہو رہی ہیں' ان پر غور ہو رہا ہے اور ان ہی کا اثر آئے گا جو ہماری recommendations ہوں گی۔ ایوان سے جو recommendations جائیں گی تو final چیز اسی میں آئے گی۔

جناب چیئرمین۔ سید ہدایت حسین شاہ' موجود نہیں ہیں' مسٹر لیاقت علی بنگزئی۔

سینیٹر لیاقت علی بنگزئی۔ اعوذ باللہ من الشیطٰن الرجیم۔ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم۔

(عربی) جناب چیئرمین! میں اپنی تقریر کے لیے آپ سے خصوصی طور پر پانچ دس منٹ کی رعایت چاہتا ہوں اس لیے کہ آپ نے خود ہی محسوس کیا کہ ہمارے اجلاس میں وزراء صاحبان بھی نہیں

ہیں اور پارلیمانی سیکریٹری بھی نہیں ہیں ۔ صرف ہماری ایک محترمہ منسٹر صاحبہ موجود ہیں جو کہ دونوں ایوانوں کو بھرپور وقت دے رہی ہیں۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں اپنی تقریر کو سقراط کے اس قول سے شروع کروں گا کہ الفاظ کا غلط استعمال سب سے بڑا جرم ہے ۔ میں البتہ اس میں ذرا اور بھی اضافہ کروں گا کہ ہندسوں کا غلط استعمال بھی سب سے بڑا جرم ہے ، صرف الفاظ ہی نہیں ہندسوں کا غلط استعمال بھی بڑا جرم ہے اور ہمارا بجٹ clearly ہندسوں کا کھیل ہے ۔ بجٹ میں اعدادوشمار پیش کیے جاتے ہیں ۔ سبز باغ دکھائے جاتے ہیں اور عملی صورت جو بھی بنتی ہے پورے ایک سال کے بعد اس کی projection ہمارے سامنے آتی ہے اور نتیجہ صفر ہوتا ہے ۔

جناب چیئرمین! کسی بھی ملک کی معیشت کا دارومدار ملک کے امن و امان کی صورتحال پر ہوتا ہے۔ یہاں امن و امان کی صورتحال کیا ہے ، یہ ہم سب کے سامنے موجود ہے ، دن دہاڑے قتل ہو رہے ہیں، بینکوں کو لوٹا جا رہا ہے، لوگوں کو مارا جا رہا ہے اور جو سب سے بڑی لوٹ مار مچی ہوئی ہے وہ ہمارے تمام پاکستان کے دفاتر میں رشوت کی صورت میں مچی ہوئی ہے ۔ اس وقت آپ کسی بھی محکمے میں جائیں، کہیں بھی جائیں جب تک آپ ان کو رشوت نہ دیں آپ کا ایک جائز کام بھی نہیں ہو سکتا چہ جائیکہ ایک ناجائز کام کے لیے کسی کو پیسے دیں۔ آپ اپنے جائز کام کے لیے بھی وہاں جائیں تو آپ سے رشوت لی جائے گی۔

جناب چیئرمین ! جس ملک میں سیاسی استحکام متعین خطوط پر نہ ہو اور کوئی mechanism نہ ہو تو میں یہ سوچتا ہوں کہ وہاں اقتصادیات کبھی بھی take off نہیں کر سکتی۔ اقتصادیات کے لیے ایک mechanism ہونا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اسلامی اقتصادیات میں ایسا سسٹم نہیں جو ہمارے ملک کو ترقی کے عروج پر نہ پہنچا سکے۔ 57 برس گزر گئے آج تک ہم نے اسلامی معیشت پر کبھی غور ہی نہیں کیا۔ ہم ترقی پسند، روشن خیال اور نہ جانے کتنے دعووں کے ساتھ بجٹ پیش کرتے ہیں لیکن نتیجہ ہمیشہ صفر ہی رہا۔ جناب چیئرمین! ہم نے جس مقصد کے لیے ملک حاصل کیا تھا، کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ اسلام نے ہمیں کیا معیشت دی ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جتنے بجٹ ہیں جیسا کہ ہمارے ایک فاضل محترم رکن صاحب نے فرمایا

کہ ہم نے اللہ سے غداری کی ہے اس لیے ہماری معیشت کبھی take off کی طرف نہیں جائے گی۔ چنانچہ سب سے پہلے ہمیں اپنے بجٹ کو اسلام کے معاشی اصولوں پر عملی طور پر لانا چاہیے۔

جناب چیئرمین! معیشت کو نظام عدل اور انصاف کافی حدتک push کرتا رہتا ہے لیکن جہاں انصاف بکتا ہے وہاں معیشت نہیں سنورتی۔ ہمارے ہاں انصاف بک رہا ہے۔ میں آپ کو سینکڑوں ایسی مثالیں دے سکتا ہوں جہاں ہمارے انصاف دینے والے اداروں نے واقعی انصاف کے کانوں اور آنکھوں پر پٹی باندھ رکھی ہے۔ اگرآپ کسی وزارت میں جائیں تو ایک ترازو کے سامنے ایک بندہ کھڑا ہے اور اس کی آنکھوں پرپٹی ہے یعنی یہ انصاف کسی کا لحاظ نہیں رکھتا لیکن یہاں انصاف بک رہاہے جناب چیئرمین۔

جناب چیئرمین! ہمارے ہاں تقریباً تمام کارخانے بند ہیں، رہی سہی جو کسرتھی اور تھوڑا بہت جو ہماری معیشت کا پہیہ چل رہا تھا موجودہ بجٹ نے اس کا بھی ستیاناس کر دیا ۔ تمام کارخانے بند، پاکستان کے ساحلوں پر آباد ماہی گیر جو دنیا کی بہترین قسم کی مچھلی اور اعلیٰ قسم کے جھینگے پکڑ کر export کر رہے تھے، اچانک ایک صبح پاکستان کی سمندری حدود میں ماہی گیروں کے حقوق بین الاقوامی اداروں کو فروخت کر دیے۔ جناب چیئرمین! نہ اس ایوان کو اعتماد میں لیا گیا، نہ قومی اسمبلی کو اعتماد میں لیا گیا ، نہ وہاں کے صوبوں کو اعتماد میں لیا گیا۔ اچانک صبح میں نے اخبار پڑھی، تمام اداروں کو انہوں نے بین الاقوامی اداروں کو بیچ دیا۔

جناب چیئرمین! میرے ساحل کا ایک ماہی گیر ان طاقتور جہازوں اورمشینی جہازوں کا کس طرح مقابلہ کرے کہ جو ہزاروں ٹن مچھلی ایک ہی گھنٹے میں شکار کر جاتے ہیں۔ میرے ساحلوں پر آباد تقریباً ستر ہزار اس پیشے سے وابستہ ماہی گیر ہیں وہ تو نان نفقہ کے لیے محتاج ہیں۔

جناب چیئرمین! میری پہلی تجویز یہ ہے کہ ہمارے ماہی گیری کے جو سمندری حقوق ہیں ان کو فوری طور پر بین الاقوامی اداروں سے لے کر اپنی ہی مقامی صنعت کو دیا جائے اور اگر وہ اس کاروبار میں مزید ترقی لانا چاہتے ہیں تو ماہی گیروں کو قرض حسنہ کے طور پر پیسے دے کر بھاری مشینری اور بھاری جہاز اور بھاری مشینی جال ان کو لے کر دیں۔

دوسری تجویز جناب چیئرمین! دودھ کے کاروبار سے ہزاروں افراد کا روزگار وابستہ تھا' دودھ کی distribution کا کام multinational کمپنیوں کے سپرد کیا گیا۔ یہ ایک دوسرا اقتصادی شب خون تھا جو میرے ملک کے غریب عوام پر مارا گیا۔ جناب چیئرمین! ایک ایسی multinational کمپنی کو دودھ کی پوری distribution دے دی جو معمولی سرمایہ کاری سے نہ صرف بھاری منافع کما رہے ہیں بلکہ اپنے منافع کو foreign currency میں تبدیل کر کے اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں وہ ہمارے خون پسینے کو foreign currency میں تبدیل کر کے اپنے ہی ملکوں میں لے جائیں گے۔ وہ تجارت جو خالصتاً پاکستان میں ہوتی تھی وَہ آج کل foreign currency میں ہو رہی ہے اور ہمیں تجارتی خسارہ ہوتا ہے۔ہم نے multinational companies کو باہر سے منگوا کر سب کچھ ان کے سپرد کر دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ شب خون ہماری milk industry پر مارا گیا ہے۔ میری دوسری تجویز یہی ہے کہ اسے بھی فوری طور پر multinational companies سے لے کر ہمارے مقامی صنعت کاروں کو دیا جائے۔

جناب چیئرمین! Cellular phone دنیا بھر میں ایک منافع بخش کاروبار تسلیم کیا جاتا ہے۔ کروڑوں صارفین اس وقت بھی اسے استعمال کر رہے ہیں۔ بہتر ہوتا کہ ہم بیرون ملک پاکستانی سرمایہ کاروں کو ترغیب دے کر ان کو دعوت دیتے اور ان کو آمادہ کرتے اور ان کو ٹیکسوں میں چھوٹ دے کر ان کو یہاں بلاتے تاکہ ہمارا زرمبادلہ بچ جاتا۔ نوجوانوں کو روزگار ملتا اور حکومت کو محاصل ملتے۔

جناب چیئرمین، بنگزئی صاحب! آپ کا وقت ختم ہو رہا ہے۔

سینیٹر لیاقت علی بنگزئی، میرے بعد شاید ایک دو مقرر ہوں گے۔

جناب چیئرمین، نہیں بہت ہیں۔ بڑی لمبی list ہے۔ Government کے بہت ہیں۔

سینیٹر لیاقت علی بنگزئی، یہ وقت تو تجاویز ہی کے لئے ہے۔

جناب چیئرمین، تجاویز شروع میں دے دیں۔ آپ جو facts بتا رہے ہیں' وہ ریکارڈ میں ہیں۔ آپ جلدی جلدی تجاویز دے دیں۔ ایک آدھ منٹ میں ختم کر دیں۔

سینیٹر لیاقت علی بنگزئی، یہ تجاویز ہیں جو میں دے رہا ہوں۔ اگر یہ تجاویز نہیں ہیں تو پھر آپ بتائیں۔ اگر میں موضوع سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں تو ہمارے Leader of the House بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ ماشاء اللہ بڑے active ہیں۔ ہمیشہ نوٹ لیتے رہتے ہیں۔ یہ میرے نوٹ بھی لیں۔ تو اس وقت ہمارے ملک میں ۷۰ لاکھ سے زیادہ موبائل فون ہیں۔

جناب چیئرمین، نہیں' آپ ایک آدھ منٹ میں تجاویز دے دیں۔

سینیٹر لیاقت علی بنگزئی، اچھا جناب! مزے کی بات یہ ہے کہ جس قیمت میں زرمبادلہ کی ادائیگی کی گئی وہ ۷ کھرب روپے بنتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ایک تو ہمارا زرمبادلہ کا نقصان ہوا۔ ہم نے بیرونی دنیا کی ملٹی نیشنل کمپنیوں کو یہ دے دیا ہے۔ ہم نے Cellular phone کا سارا اختیار ان کو دے دیا۔ صرف موبی لنک کے ہمارے ملک میں ۶۵ لاکھ صارفین ہیں۔ یہ بڑا منافع بخش کاروبار ہے۔ میں حیران ہوں کہ اس کو ہم نے کیوں دوسرے ملکوں کو دے دیا۔ سارے ملک میں غربت بھی ہے اور بے روزگار نوجوان بھی ہیں جو ڈگریاں ہاتھوں میں لئے پھرتے ہیں۔ اچھا فون بنانا تو ایک الگ بات ہے اس کی سروس بھی ہم نے ملٹی نیشنل کمپنیوں کو دی ہے۔ ایک کمپنی کو تو ہم نے پیسوں کی ادائیگی کے لئے دو سال کی مہلت بھی دی ہے۔

جناب چیئرمین، آپ ایک منٹ میں ختم کریں۔

سینیٹر لیاقت علی بنگزئی، جناب چیئرمین! مہربانی کرکے آپ مجھے ۵ منٹ دے دیں۔

جناب چیئرمین، نہیں، میں نہیں دوں گا۔

سینیٹر لیاقت علی بنگزئی، PTCL کا نو ماہ کا منافع ۲۲ ارب روپے ہے۔

جناب چیئرمین، میں ممبروں سے request کروں گا کہ مہربانی کرکے خیال کریں، جو ایک time fix ہوا ہے اس کی پابندی کریں۔ دیکھیں آپ کا نام پہلے پکارا تھا آپ تھے نہیں پھر بھی آپ کو موقع دیا۔ اب آپ وقت کی قدر کریں۔

سینیٹر لیاقت علی بنگزئی، آپ کی بڑی مہربانی ہے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔

جناب چیئرمین، باقیوں کا بھی پھر اعتراض جائز ہو گا۔

سینیٹر لیاقت علی بنگزئی، جناب چیئرمین! ایکسپورٹ پروموشن بیورو کا کام تو ایکسپورٹ کو promote کرنا ہے۔ ہمارے ہاں گنگا الٹی چل رہی ہے۔ آپ خود دیکھیں کتنا ظلم ہے کہ اب ایکسپورٹ والے بھارت سے import کر رہے ہیں۔ ہم software کو بھارت سے import کر رہے ہیں۔ یعنی ہم گنگا کو الٹی بہا رہے ہیں۔ بجائے کہ ہم یہاں سے ایکسپورٹ کرتے ہم وہاں سے import کرتے ہیں اور وہ بھی ایکسپورٹ پروموشن بیورو کے ذریعے۔ تو اس کو بھی ہمارے Leader of the House نوٹ کرلیں اور ان کو یہ سمجھا دیں۔ اب اس الٹی گنگا کو ذرا سیدھی کرا دیں۔

میں آخری بات کروں گا۔ ویسے تو میرے پاس کہنے کے لئے بہت کچھ ہے۔ آپ یقین کریں میں تو تین دن سے اس حوالے سے تیاری بھی کر رہا ہوں۔ اب چونکہ وقت کی مجبوری بھی ہے۔ میں ایک تجویز دوں گا کہ ہمارے بلوچستان میں hydro power potential نہیں ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ گیس بھی ختم ہونے والی ہے۔ مگر solar potential ایک ملین میگا واٹ ہے۔ یہ سائنسی ماہرین کی رپورٹ ہے۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ یہاں ۱۰ مربع کلو میٹر علاقے کی ہوا کو روک کر ہم پچاس ہزار میگا واٹ بجلی پیدا کر سکتے ہیں۔ اگر رقبے میں اضافہ کرلیں تو پچاس ہزار میگاواٹ کا مزید بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ جبکہ اسی technique سے یورپی یونین بارہ ہزار، امریکہ، کیلی فورنیا میں ڈھائی ہزار میگاواٹ بجلی پیدا ہو رہی ہے۔ پاکستان میں بجلی کی پیداوار کی کل گنجائش ۱۷ ہزار میگاواٹ ہے جو ہوا سے پیدا کی جاسکتی ہے۔ اس وقت ہم صرف دس کلو میٹر ہوا کو روک کر یہ انرجی لے سکتے ہیں جبکہ بھارت میں پانچ ملین شمسی لائٹ

ہے۔ دو ملین شمسی گھر ہیں۔ تیس ملین شمسی چولہے ہیں اور تیس ملین بائیو گیس پلانٹ ہیں۔ جناب چیئرمین! میں دیکھ رہا ہوں آپ time دیکھ رہے ہیں۔ میں اپنی تقریر مختصر کروں گا۔ میری یہ تجاویز آپ نوٹ کرلیں اور جہاں وزارت خزانہ والے بیٹھے ہیں ان تک پہنچا دیں۔ شکریہ۔

جناب چیئرمین، شکریہ۔ ولی محمد بادینی۔

سینیٹر میر ولی محمد بادینی، جناب چیئرمین! میں آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اس بجٹ پر اظہار خیال کرنے کے لیے موقع دیا۔ میں سب سے پہلے وزیر اعظم شوکت عزیز صاحب اور وزیر مملکت برائے خزانہ جناب عمر ایوب صاحب اور ان کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنھوں نے دن رات ایک کرکے بہترین صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے یہ بجٹ تیار کیا۔ جناب چیئرمین صاحب! 198.5 ارب کا موجودہ بجٹ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا بجٹ ہے۔ پاکستان کے معرض وجود میں آنے کے بعد اب تک اتنا بڑا بجٹ کسی حکومت نے پیش نہیں کیا ہے۔ بلا شبہ یہ عوام دوست بجٹ ہے کیونکہ اس بجٹ میں زندگی کے ہر شعبے اور طبقے کی ضرورت کو مدنظر رکھا گیا ہے۔ خاص کر محنت کشوں کے لیے پاکستان کا سالانہ بجٹ بے مثال تاریخی اہمیت کا حامل ہے جس کا مقصد پاکستان کے عوام کو خوشحال بنانا اور پاکستان کے ایٹمی آلات کو محفوظ کرنا ہے۔ اس کی چند خصوصیات یہ ہیں۔ اس میں خاص طور پر سرکاری ملازمین کو relief دیا گیا ہے اور ان کی تنخواہوں میں 29% اضافہ کیا گیا ہے۔ House rent میں 136% اضافہ کیا گیا ہے۔ یہ ایک بڑی خوش آئند بات ہے۔ گورنمنٹ نے 1800 items پر import duty کم کی ہے۔ اندرونی قرضے کم کیے گئے ہیں اور ۲۷ ملین کے بیرونی قرضے آخری چھ ماہ میں ادا کیے جائیں گے۔ زراعت ملک کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ ملک کی ۷۵ فیصد آبادی دیہات میں رہتی ہے اور پاکستان کی اکثریت زراعت پر گزارا کرتی ہے۔ حکومت نے کسانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے گندم اور کپاس کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے۔ گو کم ہے لیکن پھر بھی کر دیا گیا ہے۔ بیج اور کھاد کی فراہمی کو یقینی بنایا گیا ہے۔ کسانوں کو اس وقت ۳ ارب ۸۰ کروڑ کے قرضے دیئے ہیں۔ زرعی شعبے میں تیز رفتار ترقی کے لیے ٹریکٹر ساز کمپنی

کو کسی ڈیوٹی کے بغیر ۲۵۰۰ ٹریکٹر فی کمپنی import کرنے کی اجازت دی گئی ہے جس سے پاکستان میں ٹریکٹر سازی کے نئے کارخانے لگائے جائیں گے۔اس کے علاوہ دو سو بلڈوزر بلوچستان کو اور ایک سو بلڈوزر صوبہ سرحد کو دیئے جائیں گے۔اس سے زرعی ترقی میں اضافہ ہوگا۔اس کے علاوہ بلڈوزر انجن پر ڈیوٹی ختم کی گئی ہے جس سے کاشتکاروں کو بالخصوص relief ملے گا۔روزمرہ کی اشیاء جیسے صابن اور ڈٹرجینٹ پاؤڈر پر سیلز ٹیکس اور ڈیوٹی ختم کر دی گئی ہے کیونکہ یہ عام آدمی کے استعمال کی چیزیں ہیں۔ لہذا اس سے غریب عوام کو relief ملے گا۔جناب والا! درآمد شدہ کاروں پر ڈیوٹی کم کی گئی ہے۔سی این جی اور Eruo 2 بسوں کی درآمد اور supply کو sales tax سے exempt قرار دینے کی تجویز ہے۔ اب میں کچھ سفارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔

جناب والا! ٹریکٹر ساز کمپنی کو بغیر ڈیوٹی کے 2500 ٹریکٹر منگوانے کی اجازت دینے کی تجویز ہے۔ یہ ایک مثبت قدم ہے لیکن یہ ملکی صنعت کے لیے ضرر رساں ہے۔ میں یہ سفارش کرتاہوں کہ غیر ملکی ٹریکٹروں پر انحصار کم کر کے مقامی صنعت کو زیادہ مراعات دی جائیں۔بنکوں سے پچیس ہزار روپے سے زیادہ رقم نکالنے پر 1%. ٹیکس کو ختم کیا جائے۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو عوام بنکوں میں رقوم رکھنا چھوڑ دیں گے اور دوسرے ذرائع استعمال کرنا شروع کر دیں گے جس سے قومی معیشت کو نقصان ہو گا۔

ادھر موبائل کی بڑی بات ہوئی۔ میں ایک تجویز دیتا ہوں کہ Wireless Local Loop جو موبائل فون کی طرح ایک فون سروس ہے۔اس پر پندرہ فیصد Excise duty عائد کرنے کی تجویز ہے۔ اس کو ختم کیا جائے کیونکہ یہ پسماندہ اور دور دراز علاقوں کے لوگوں سے رابطے کا واحد ذریعہ ہے۔

Ship breaking کے سلسلے میں تین فیصد ٹیکس کم کر کے ایک فیصد کرنے کی جو تجویز ہے اس میں ہماری سفارش ہے کہ scrap کہیں سے بھی لایا جا رہا ہو اس پر یکساں ٹیکس وصول کیا جائے کیونکہ یہ مختلف قسم کے ٹیکس ہوتے ہیں۔ کراچی سے الگ ہے، بلوچستان سے الگ ہے۔ اس کو یکساں کیا جائے۔

موجودہ حکومت نے بلوچستان کی ترقی کے لیے کافی اقدامات کیے ہیں اور کر رہی ہے۔

بہت سے ترقیاتی منصوبے مکمل ہو چکے ہیں اور بہت سے زیرتکمیل ہیں۔ بلاشبہ اس ضمن میں کوئی اعتراض کرے تو زیادتی ہو گی اور حقیقت سے آنکھیں چرانے والی بات ہوگی۔ میں اپنے بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اچھائی کو بھی دل میں تھوڑی سی جگہ دیں اور ہر چیز کو اعتراض کی نظر سے نہ دیکھیں۔ بے شک مانگئے، مانگنا ذرا طریقے سے ہو تاکہ کسی کی سمجھ میں آئے کہ کیا مانگ رہے ہیں۔

کل ہمارے ایک ممبر صاحب، میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں، انہوں نے ایک بات کی کہ ہم غلام تھے، غلام ہیں۔ ہم غلام رہے ہیں اور نہ ہم غلام ہیں۔ہم اپنا حق مانگتے ہیں، طریقے سے مانگتے ہیں۔ ہم پاکستان کا ایک حصہ ہیں، صوبہ بلوچستان الگ نہیں ہے۔ جناب! اب تک بلوچستان سے تعلق رکھنے والے کافی ممبران نے جذباتی تقریریں کی ہیں۔ اگر وہ واقعی چاہتے ہیں کہ بلوچستان کے لیے کچھ کریں تو ان کو چاہیے کہ وہ مثبت انداز فکر اپنائیں اور حکومت کے ساتھ شانہ بشانہ مل کر کام کریں تاکہ بلوچستان حقیقی معنوں میں ترقی کی راہ پر گامزن ہو کیونکہ زندگی میں ایسے مواقع کبھی کبھی آتے ہیں جو قوموں کو بلند مقام پر پہنچاتے ہیں۔ خدا نخواستہ اگر آج یہ موقع ضائع کر دیا گیا تو خوشحال بلوچستان ایک خواب بن کر رہ جائے گا۔

ہمارے ممبر صاحبان کہتے ہیں کہ بلوچستان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ اگر وہ اپنے دور حکومت میں ترقیاتی فنڈ صحیح طور پر استعمال کرتے تو یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ اگر حقیقت کی نظروں سے دیکھا جائے تو جناب پرویز مشرف صاحب کی موجودگی میں اور موجودہ دور میں جتنی بڑی رقم رکھی گئی اتنی رقم پچھلے تمام سالوں میں نہیں رکھی گئی۔ بڑے بڑے منصوبے زیرتکمیل ہیں، تیار ہو چکے ہیں۔ شکریہ جناب۔

جناب چیئرمین: آپ نے کچھ بولنا ہے رضا صاحب، فرمائیں۔

سینیٹر میاں رضا ربانی: Sir, یہ بڑا اہم مسئلہ ہے اور آپ کے توسط سے میں یہ چاہوں گا کہ اگرآپ وزیر صاحبہ کو جو بیٹھی ہوئی ہیں، یہ ہدایت کریں کہ جب اگلا Session شروع ہو تو Interior کے دو Ministers ہیں، اگر ان میں سے ایک آ کے اس مسئلے پر statement

دے۔ جناب چیئرمین صاحب! آج کے national press میں یہ بات شائع ہوئی ہے کہ مختاراں مائی کو حکومت نے ECL پر رکھا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نہایت ہی تشویشناک بات ہے کہ اس بےچاری خاتون کے ساتھ پہلے ہی بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ اب بجائے اس کے کہ حکومت اس کی مدد کرے، حکومت نے اس کو ECL پر رکھ دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کا اپنا آج بیان ہے جو اخبارات میں شائع ہوا ہے' اس کے مطابق' اس کا یہ کہنا ہے کہ پچھلے دس دنوں سے اس کو unofficially house arrest کیا ہوا ہے اور بیس یا بیس سے زائد police کے اہلکار اس کے گھر کے باہر ہیں۔ اس کو نہ کہیں آنے دیا جا رہا ہے' نہ کہیں جانے دیا جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ بہرحال وہ تو court کا فیصلہ ہے جو لوگ اس مقدمے میں ملوث تھے' ان کو ساتھ ساتھ release بھی کیا جا رہا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت والے جو اتنے بلند دعوے خواتین کے حقوق کے لئے کرتے ہیں تو دو چیزیں تو ان کے اپنے ہاتھ میں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کو کیوں confine کیا گیا ہے' اس کی confinement illegal ہے' اس کے خلاف کوئی warrant نہیں ہے' اس کے خلاف کوئی case نہیں ہے لیکن police اس کے گھر کے باہر بیٹھی ہوئی ہے اور اس کو نہ باہر آنے دے رہے ہیں نہ جانے دے رہے ہیں۔ ہم اس بات کو سختی سے condemn کرتے ہیں اور ہم یہ demand کرتے ہیں کہ اس کو گھومنے پھرنے کی اور باہر نکلنے کی اجازت ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ حکومت آگے اس بات کی وضاحت کرے کہ کیا اس کو ECL پر رکھا ہے یا نہیں اور اگر رکھا ہے تو ہم اس کو بھی condemn کرتے ہیں اور ہمارا مطالبہ ہو گا کہ اس کا نام ECL سے فوری طور پر نکالا جائے۔

جناب چیئرمین، وسیم صاحب۔

Senator Wasim Sajjad: I will convey this message to the Ministry of Interior, the honourable Minister will do it, convey this concern to the Ministry of Interior and I do hope that they will come up to

response to this House in the next Session.

Mr. Chairman: I think when we will adjourn and remeet, if you could kindly pass it on.

Senator Mian Raza Rabbani: Yes, sir I will be grateful, if the honourable Leader of the House could ensure that one of the Minister comes and makes a statement when the House reconvenes.

جناب چیئرمین: جی سردار مہتاب صاحب۔

سینیٹر سردار مہتاب احمد خان: جناب چیئرمین! بہت شکریہ۔ مجھے اس بات کا علم ہے کہ آج بجٹ پر------

(اس موقع پر ایوان میں اذان ظہر کی آواز سنائی دی)

(ایوان کی کارروائی بعد از اذان ظہر)

سینیٹر سردار مہتاب احمد خان: جناب چیئرمین! میں محسوس کرتا ہوں کہ آج وقت بہت کم رکھا گیا ہے کیونکہ آج اس بجٹ پر discussion کا آخری دن ہے۔ میں بجٹ کے جو اعداد و شمار کے گورکھ دھندے ہیں ان میں زیادہ نہیں جاؤں گا کیونکہ دوست honourable جناب اسحاق ڈار صاحب نے اس بجٹ 2005-06 کا جو analysis کیا ہے وہ بہت عرق ریزی سے اور detail میں کیا ہے۔ اس حکومت کی طرف سے پیش کردہ جو سنہرے خواب دکھائے گئے ہیں، اس پر انہوں نے اور دوسرے ساتھیوں نے بہت اعلیٰ طریقے سے تجزیہ کیا ہے۔ چند جو موٹی باتیں سامنے آتی ہیں ان کا ذکر ضرور کرنا پڑتا ہے، چاہے یہ repetition ہو، چاہے کچھ بھی ہو ۔غالباً پاکستان کی 20 سالہ تاریخ میں یہ پہلی بار ہے کہ ایک حکومت کا پانچ سالوں کا تسلسل ہے اور ایک ہی فرد Finance Minister کے عہدے پر ہے ۔ وزیر اعظم جناب شوکت عزیز صاحب آج بھی Finance Minister ہیں، میرے دوست عمر ایوب صاحب یہاں نہیں بیٹھے، وہ تو budget reader ہیں، جیسے ایک news reader ہوتا ہے ویسے ہی وہ ایک budget

reader تھے لیکن بجٹ پچھلے پانچ سالوں سے جن کی نگرانی میں تیار ہو رہا ہے وہ جناب شوکت عزیز صاحب ہیں اور ان کی continuation ہے 20 سالوں میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی parliamentary civil elected Government کو دو یا اڑھائی سال سے زیادہ کام کرنے کا موقع ملا ہو۔ ہم یہ بات تسلسل سے سنتے آ رہے تھے اور اس سال ہمیں یہ خوشخبری سنائی گئی تھی کہ ہم نے IMF کا کشکول توڑ دیا ہے اور جنرل مشرف صاحب نے پاکستان کے اندر اور باہر بھی اور دو روز قبل Middle East کے دورے پر یہ کہا کہ ہم نے 5 ارب ڈالر کے قرضے واپس کئے ہیں۔ ہم یہ بار بار سنتے آ رہے ہیں کہ ہم نے اربوں ڈالر کے قرضے واپس کئے ہیں لیکن پھر اس سال 6 ارب ڈالر کے قرضے کس کام کے لئے لیے گئے ہیں اور یہ کہا جاتا تھا کہ سابقہ حکومت سے جب حکومت چھینی گئی تو اس وقت 37 ارب ڈالر کے قرضے واجب الادا تھے آج پانچ سالوں میں صرف ایک ارب ڈالر اس میں کم ہو سکے ہیں۔ یہ کیسا کشکول ہے جو ہم لیتے ہیں، ادا بھی کرتے ہیں اور ان سے اربوں ڈالر لیتے بھی ہیں۔

جناب والا! 1100 ارب روپے poverty alleviation پر خرچ کئے گئے لیکن آج حقیقت یہ ہے کہ World Bank کی رپورٹ کے مطابق اور اسٹیٹ بنک کے اعتراف کے مطابق غالباً پاکستان دنیا کا واحد ملک ہو گا جہاں غربت 27% سے بڑھ کر 40% ہو گئی ہے۔ یہ ہمارے دوستوں نے ٹھیک کہا ان حکمرانوں کو کہ جو اپنی security اور motorcades پر اربوں روپے خرچ کرتے ہیں اور جن کا رہنا سہنا اعلیٰ درجے کا ہے، وہ غریبوں کی poverty کو دور کرنے کا کیسے سوچ سکتے ہیں۔ مزید بدقسمتی اور بھی ہے کہ ماضی میں جنرل ضیاء الحق کے آمریت کے گیارہ سالہ دور میں غیر ملکی امداد کی ایک ریل پیل تھی لیکن پاکستان معاشی طور پر اس وقت بھی ترقی نہ کر سکا اور آج بھی غیر ملکی امداد کی ریل پیل ہے لیکن پاکستان میں کسی طرح نہ معاشی، نہ industrial، نہ social sector نہ تعلیم، نہ صحت میں بہتری ہوئی اور نہ غربت کا خاتمہ ہو سکا۔ آج بھی یہ المیہ جاری ہے۔ اس وقت بھی افغان جہاد کی وجہ سے جرنیل اور ان کی اولاد پاکستان کے امیر فرد بن گئے۔ آج بھی امیر لوگوں کے نئے گروہ پیدا ہو رہے ہیں لیکن پاکستان کے 15 کروڑ عوام آج بھی اسی جگہ کھڑے ہیں جہاں اُس حکومت کے وقت میں تھے۔ معیشت کا پہیہ رکا

ہوا ہے۔

جناب والا! اس سال سے WTO کے agreement پر عمل درآمد شروع ہوا ہے اور جوں جوں وقت گزرے گا تو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی industrialization اس سے بُری طرح متاثر ہو رہی ہے کیونکہ ہمارے پڑوس میں چائنا اور ہندوستان دو ایسے ملک ہیں کہ جو اپنی industrialization میں وہاں تک جا چکے ہیں کہ ان کی cost of production پاکستان کی انڈسٹریز کی cost of production سے کم ہے تو جوں جوں ہم آگے چلتے جائیں گے تو ہمیں یہ نظر آئے گا کہ پاکستان میں real economic growth بالکل رک جائے گی ۔ آج بھی مجھے یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس موجودہ حکومت نے WTO کے آنے والے خطرات سے نمٹنے کے لئے ابھی تک کوئی حکمت عملی نہیں بنائی ۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بدترین دور ہے کہ جس میں امیر، امیرتر اور غریب، غریب تر ہو رہا ہے ۔

جناب والا! ہم نے یہ بھی دیکھا اور جیسے میرے فاضل دوست پروفیسر ساجد میر صاحب نے کہا کہ جو ہماری اکانومی ترقی پذیر ہے اس کے بیرو میٹرز کو بدلنا پڑے گا ۔ اگر آپ سٹاک ایکسچینج کو اس ملک کی ترقی کا بیرو میٹر بنائیں گے تو جناب والا ! پھر یہ بات بھی اس قوم کو بتانی پڑے گی کہ کونسے وہ چند افراد تھے جنھوں نے اس ملک کے غریب investors کے ایک مختصر وقت میں اربوں روپے ہضم کرلئے اور وہ small investors تھے ۔ ان کے اربوں روپے لوٹ لئے گئے لیکن ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے اور یہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ اس میں حکمرانوں کی patronage بھی شامل ہے ۔ اس کا کسی نے نوٹس نہیں لیا۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دن شوکت عزیز کے استعفیٰ کی خبر آتی ہے تو سٹاک ایکسچینج اگر ایک hundred points گرا ہے تو اس کی تحقیقات کا تو حکم دے دیا گیا ہے لیکن جو capitalization میں کم از کم تین سو ارب روپے کی کمی آئی ہے غریبوں کے لٹنے سے، اس کو کسی نے پوچھنے کی کوئی کوشش نہیں کی ۔

جناب والا! یہاں پر یہ تیسرا بجٹ ہے لیکن نیشنل فنانس کمیشن کا ابھی تک اعلان نہیں کیا گیا۔ آپ اس بات سے واقف ہیں کہ صوبہ سرحد پاکستان کے ان صوبوں میں ہے جس کی اپنی آمدنی کے ذرائع نہیں ہیں ۔ نہ تو وہاں پر بڑے پیمانے پر agriculture land ہے اور نہ

ہی کسی سطح کا کوئی recognized or noticeable industrial zone ہے کہ جو صوبہ سرحد کی economic growth کو بڑھا سکے ۔ اس کی ساری کی ساری dependence federal divisible pool پر ہے اور اس کی جو آمدنی ہے وہ تربیلا ڈیم کی رائلٹی ہے، یہ اس کے دو major sources ہیں لیکن ہم اس بات کو دیکھ لیں کہ نیشنل فنانس کمیشن کے اعلان نہ ہونے کی وجہ سے آج صوبہ سرحد کی حکومت کو اپنا بجٹ پیش کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے ۔ جناب ! آپ اس بات سے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ کیا صوبہ سرحد میں ایم ایم اے کی منتخب حکومت کو بلیک میل کرنے کے لئے این ایف سی ایوارڈ کا اعلان نہیں کیا گیا؟ کیا وجوہات ہیں ؟ میں جہاں تک سمجھتا ہوں اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ آج اس ملک کو ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرز پر چلایا جا رہا ہے ۔ یہاں کے حکمرانوں کو اس بات سے قطعاً کوئی دلچسپی نہیں کہ صوبہ سرحد یا صوبہ بلوچستان یا سندھ کے محروم علاقے جو آج غربت کی بدترین حالت سے گزر رہے ہیں ، جہاں national assets ہیں، وہ اولاً موجود نہیں اگر موجود ہیں تو ان کی حالت بڑی بری طرح خراب ہے ۔ جہاں پر فیڈرل حکومت کی توجہ نہیں ہے وہ بدترین معاشی حالات کا شکار ہیں۔ یہ حکومت فوجی حکمرانوں کے ایک مخصوص گروہ کے مفادات کے تحفظ کے لئے ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرز پر چلائی جا رہی ہے ۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جب برصغیر میں ایسٹ انڈیا کمپنی آئی تو سب سے پہلے انہوں نے یہاں پر economic interests کو develop کیا۔ اس کے بعد اس ملک کو اپنے قبضے میں لے لیا ۔ ہمارے ہاں چار دفعہ کی مسلسل فوجی حکمرانی کا اس ملک کے ریاستی اور جمہوری نظام کے اوپر قبضہ تھا۔ اس نے پہلے ان کو طاقتور کیا سیاسی طور پر ، آج افواج پاکستان سب سے زیادہ organised پولیٹیکل پارٹی بن چکی ہے۔ سچی بات ہے میں اس بات کو بالکل ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ اس ملک کے فوجی حکمرانوں کو اس ملک کے مفادات سے کبھی دلچسپی نہیں تھی۔ نہ پہلے تھی نہ آج ہے اور میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ آئندہ بھی کبھی نہیں ہوگی۔ اس بات کو میرے بہت سے ساتھیوں نے، میرے بہت سے دوستوں نے،--- ہمارے وہ بھائی جو آج میرے سامنے موجود نہیں ہیں، ثناء اللہ بلوچ ہیں، امان اللہ کنرانی ہیں، رضا ہیں اور اس طرح کے دوسرے ساتھی جو بلوچستان کے معاملات کو، اس کی محرومیوں کو، اس کے ساتھ زیادتیوں کو اس

فلور پر لے کر آتے ہیں اور آپ سے التجا کرتے ہیں' آپ کو دردمندی سے اپنی باتیں سناتے ہیں لیکن جناب چیئرمین! میں آپ کا reaction بھی اور اس طرف بیٹھے ہوئے دوستوں کے reaction کو بھی دیکھتا ہوں کہ ہم ان کی باتوں کو ناپسند کرتے ہیں شاید۔ ان کی باتوں کو ہم مسترد کرنا چاہتے ہیں لیکن حقائق یہ ہیں کہ اس سے قبل بھی 1970ء میں جب مشرقی پاکستان جو آج کا بنگلہ دیش ہے' اس وقت جب وہ ہمارا ایک حصہ تھا تو وہاں کی خودساختہ اور جعلی قیادت نے جو اس وقت ایوب خان کے دائیں اور بائیں بازو بن کر بیٹھے تھے وہ لوگ نہیں' لیکن مشرقی پاکستان کے real representatives تھے' جو اس کے عوام کی رائے کی بات کرتے تھے' جو اس کی محرومیوں کی بات کرتے تھے' ان کو جناب چیئرمین! اس پارلیمنٹ میں' اس وقت کی پارلیمنٹ نے کبھی نہیں سنا۔ کبھی ان کی باتوں پر توجہ نہیں دی گئی اور آج جب یہاں پر بات کرتے ہیں ہمارے ساتھی بلوچستان کی' tribal area میں ہونے والے ظلم کی تو آپ سب کو غصہ آتا ہے لیکن میں آپ کو بہت دردمندی سے گزارش کر چکا ہوں' پہلے بھی کرتا تھا اور آج بھی کرتا ہوں-----

جناب چیئرمین، وقت کا خیال رکھیے۔

سینیٹر سردار مہتاب احمد خان، ان کی باتوں کو نظرانداز نہ کیا جائے۔ میرے دوست' میرے بھائی اسحاق ڈار صاحب نے بھی کچھ بلوچستان کے دوستوں کی باتوں کا' جو کہ کسی حوالے سے پنجاب سے متعلق تھیں' کا ذکر بھی کیا' انہوں نے بھی defend کرنے کی کوشش کی اور بھی ساتھیوں نے defend کرنے کی کوشش کی لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پنجاب کے عوام سے' پنجاب کے لوگوں سے کسی کو بھی گلہ نہیں ہے' نہ صوبہ سرحد میں' نہ صوبہ بلوچستان اور نہ ہی صوبہ سندھ میں لیکن اگر گلہ ہے' اگر کوئی چیز قابل نفرت ہے تو وہ یہاں کی establishment کی نفسیاتی سوچ ہے۔ وہ اپنی طاقت کے زور پر سارے ملک کو دبا کر رکھنا چاہتی ہے' اس کو قابو میں رکھنا چاہتی ہے۔ اس بات پر اعتراض ہے۔ جناب والا! جتنی جلدی ہم اس بات کو سمجھ سکیں----

جناب چیئرمین، وقت ختم ہو رہا ہے، آپ ذرا وقت کا خیال رکھیں۔

سینیٹر سردار مہتاب احمد خان، مجھے پتا ہے، میں احساس کرتا ہوں، میں زیادہ وقت نہیں لیتا۔ I will just try to wind up in a minute. جناب والا! اب حقیقت یہ ہے کہ اس ملک میں چاہے یہ بجٹ ہو یا آئندہ آنے والا بجٹ ہو، ایسا بجٹ جو پاکستان کے عوام کی غربت، ان کی بیروزگاری، اس ملک میں انصاف کرنے والے معاشرے اور اس ملک میں ایک مضبوط مستقبل کی امید دلانے والا بجٹ اگر نہیں ہوگا تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ یہ بجٹ پاکستان کے عوام کے کسی کام کا نہیں ہے۔ مجھے اس سے نہ کوئی امید ہے اور نہ اس بات پر میں یقین رکھتا ہوں کہ ایسے چند لوگ جن کا نہ اس ملک میں کوئی مضبوط رشتہ زمین سے ہو، نہ اس ملک کے ساتھ جن کا کوئی مضبوط اخلاقی رشتہ ہو، نہ جس کا اس ملک کے ساتھ کوئی مضبوط مذہبی رشتہ ہو، میں ان سے قطعاً اس ملک کی بہتری کی امید نہیں رکھتا اور میں سمجھتا ہوں اور یہ experience بھی ہم اس سینیٹ میں کر چکے ہیں کہ پچھلے سال جو تجاویز اس وقت کے بجٹ کے بارے میں اس سینیٹ نے، اس اعلیٰ ادارے نے یہاں سے دی تھیں نیشنل اسمبلی میں ان کو مسترد کر دیا گیا اور مجھے اس بات کا اس دفعہ بھی خدشہ ہے کہ جو تجاویز یہاں سے ہمارے ساتھیوں نے پیش کی ہیں ان کو وہاں پر قبول نہیں کیا جائے گا۔ بہت شکریہ جناب والا۔

جناب چیئرمین، سردار صاحب ! آپ نے کہا کہ میں بھی کسی بات کو ناپسند کرتا ہوں تو یہ فیصلہ آپ نے کس بات پر کیا ہے۔

سینیٹر سردار مہتاب احمد خان، جناب والا! میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ بہت دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھی جو نوجوان بھی ہیں اور پہلی بار شاید سینیٹ میں آئے ہیں تو وہ اپنی جذباتیت کا اظہار ضرور کرتے ہیں لیکن ان کی باتوں میں حقائق ہوتے ہیں۔ ان کی باتوں میں سچ ہوتا ہے۔ وہ تلخ ہیں۔ تو ان کی بات کو سننے سے شاید حالات بہتر ہوتے ہیں لیکن اکثر میں دیکھتا ہوں کہ آپ بھی ان کو جب روکتے ہیں تو وہ معاملات پھر آگے بڑھ جاتے ہیں اور پھر اس اعلیٰ ادارے کا جو وقار ہے، اس پر ضرور حرف آتا ہے تو یہ میری گزارش ہے کہ ہمیں ان کی

باتوں کو سننا چاہیے، چاہے وہ دو منٹ زیادہ لے لیں، چاہے وہ پانچ منٹ زیادہ لے لیں۔ جب وہ یہاں پر ventilate کرتے ہیں اپنے جذبات کو تو اس کے مثبت اسباب ملتے ہیں۔

جناب چیئرمین، ہم سب کو آپ سے اتفاق ہے لیکن وقت کتنا زیادہ لے لیا ہے۔ اس طرح دوسروں کی بھی حق تلفی ہوتی ہے۔ صرف اس وجہ سے ورنہ میرا نہیں خیال کہ میں نے کبھی ایسے بات کی ہو کہ کسی ایک ممبر کو ہم نے ناجائز طور پر ناپسندیدہ ظاہر کیا ہو اور یہاں پر بھی جو لوگوں کے خیالات ہوتے ہیں وہ بھی ان کے جذبات پر مبنی ہوتے ہیں۔ تو دوسروں کے جذبات کا بھی احترام کرنا چاہیے، بات ایسے کی جائے۔

سینیٹر کامل علی آغا، بجٹ اس ہاؤس کا ایک document ہے۔ اگر کوئی اس کو پھاڑ کر پھینکے تو وہ ہم برداشت نہیں کریں گے۔

جناب چیئرمین، اور اس پر اللہ کا نام ہے۔ ورنہ یہ یقین رکھیں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔

Senator Sardar Mehtab Ahmed Khan: I would completely disagree with him. This document is not a sacred document.

ہم کیسی بات کرتے ہیں۔ اگر اس ملک کا کوئی sacred document ہے تو that is the Constitution of Pakistan. جس کو اس ملک کے فوجی بوٹوں نے کئی دفعہ روندا ہے۔

جناب چیئرمین، میرا خیال ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوا تھا پھر بھی جتنا وقت مختص تھا اس کے حساب سے بولا۔ اگر زیادہ وقت لیں اور نہ روکیں تو پھر ہر کوئی کرے گا، پھر ہاؤس میں نظم و ضبط کیسے رہے گا؟ باقی یہ یقین رکھیں کہ کوئی ناپسندیدہ خیالات نہیں ہیں۔ سب ممبروں کا احترام ہے۔ یہ آپ تسلی رکھیں۔ مولانا راحت حسین۔

سینیٹر مولانا راحت حسین، بسم اللہ الرحمٰن الرحیم (عربی)۔ شکریہ جناب چیئرمین! بجٹ پر عام بحث جاری ہے اور ہمارے معزز اراکین نے اور ہمارے بھائیوں نے بھی اچھی تجاویز پیش کی ہیں۔ میں کوئی اقتصادی ماہر نہیں لیکن بہرحال اس حوالے سے لب کشائی کروں

گا کہ مملکت کی ذمہ داری اور خلافت کی ذمہ داری اور سٹیٹ کی ذمہ داری یہ ہوا کرتی ہے کہ وہ مملکت کو بنیادی ضروریات مہیا کریں۔ اللہ رب العالمین نے بنیادی ضروریات کا ذمہ خود لیا ہے۔ (عربی) اورجب اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو خلافت کا سسٹم دیا تو مزاجاً وہی اصول اور وہی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے اپنے نائب خلیفہ کے حوالے کی۔ خلافت کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ سٹیٹ کی بنیادی ضروریات کا احساس کرے۔ بنیادی ضروریات بڑی بڑی گاڑیاں نہیں۔ روٹی کپڑا، مکان اور صحت یہ سٹیٹ کی بنیادی ضروریات ہیں۔ غربت کی اور غریبوں کی احساس محرومی کا خیال رکھے۔ اسی لئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا (عربی) فقر میرا فخر ہے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ یہ وہی فقر ہے جس میں قناعت ہو۔ دوسری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (عربی) قریب ہے کہ فقر کفر کو اپنی لپیٹ میں لے لے۔ کفر اختیار کرے۔ تو محدثین یہ فرماتے ہیں کہ یہ وہی فقر ہے کہ پھر وہی محروم طبقہ دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور اللہ رب العالمین سے اس کی امیدیں ختم ہوجائیں تو پھر اللہ پر اعتماد کم ہوتا جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے اس ملک کی افلاس اور غربت کا خیال رکھنا چاہیے۔ جو ہمارے بڑے بڑے لوگ ہیں ان کو اپنے اخراجات کو کنٹرول کرنا ہے۔ اس سے احساس محرومی کم ہو گی۔

جناب چیئرمین! خلافت کا یہ اصول ہے اور یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ خلافت یہاں پر قائم نہیں۔ یہاں پر حکمرانی قائم ہے۔ اللہ کرے کہ یہاں خلافت الہیہ قائم ہو۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ کن کے ہاتھوں سے قائم ہو۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمارے جنرل صاحب کو بھی توفیق دے کہ یہاں خلافت الہیہ کا نظام قائم کرے۔ ہمارے وزیراعظم کو بھی یہ توفیق دے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں ایک صالح معاشی نظام ہو، ایک صالح اقتصادی نظام ہو جو اللہ اور اس کے رسول صلعم کی تعلیمات پر مبنی ہو۔

جناب چیئرمین! خلافت میں تو یہاں تک ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی پیاسا کتا دجلہ کے کنارے پیاس سے مر جائے تو میں عمر اس کا جواب دہ ہوں گا۔ آج ہم مڈل کلاس کے لوگ جب اپنے علاقے میں جاتے ہیں، ہم field میں جاتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ جو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، جو غریب لوگ آتے ہیں ان کے پاس ایک جگہ سے

دوسری جگہ تک جانے کا کرایہ نہیں ہوتا۔ اور جو بڑے بڑے ہاسٹلوں میں رہتے ہیں ' ایوانوں میں رہتے ہیں ان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ اس ملک کے غریب عوام کا خیال رکھیں ۔

جناب چیئرمین! امن کی بات یا defence کے حوالے سے اللہ رب العزت کا ارشاد ہے (عربی) دفاع پر جتنا بھی خرچہ اپنے ملک کی حفاظت کے لئے ' اپنی جان و مال ' اسلام اور اپنی آبرو کی حفاظت کے لئے آپ کریں گے اس کی اللہ رب العزت نے اجازت دی ہے یہ عبادت میں شامل ہوتا ہے ۔ لیکن اپنے ملک کے عوام کو مارنا اور پیٹنا اور ان کے لئے اسلحہ جمع کرنا' اس کی رب العزت نے اجازت نہیں دی ۔ امن قائم کرنا حکومت کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے ۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے (عربی) جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں ۔ اللہ نے فرمایا ان کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ میں ان کو خلافت دے دوں گا ' حکمرانی دے دوں گا ۔سب سے پہلی ذمہ داری اس کی یہ ہے کہ اقامت الصلواۃ قائم کرے اور اقتصاد کا ادارہ قائم کرے ۔ اللہ رب العالمین نے پھر وعدہ فرمایا کہ میں خوف کو امن میں تبدیل کروں گا اور افلاس کو فراوانی میں تبدیل کروں گا (عربی)

جناب چیئرمین ! یہی ہمارے مسائل ہیں ۔ میں اس پر بھی ایک بات عرض کروں گا کہ اپوزیشن والے یا حکومتی ارکان دونوں محب وطن ہیں اور میری خواہش یہ ہے اور قائد ایوان سے التماس بھی ہے کہ وہ ان تجاویز کو جو ملک کے لئے ' ملک کی معیشت کے لئے یا ملکی معاملات کو چلانے کے لئے اپوزیشن نیک نیتی سے دیتی ہے تو ان کو ضرور شامل کرنا چاہیے اور ان پر عمل کرنا چاہیے ۔ دوسری تجویز میری یہ ہے کہ اس پارلیمنٹ کو شوریٰ کہا جاتا ہے ۔ شوریٰ کے ہر فرد کی رائے کا احترام ' شوریٰ کے چیئرمین' صدر پر لازم ہے' وہ شوریٰ کے ہر رکن کی رائے کا احترام کرے ۔ جناب رسول صلعم جو خود شوریٰ کے سربراہ تھے' ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ میں آئندہ کے لئے صحابہ کرام سے مشورہ نہیں کروں گا ۔ تو اللہ رب العالمین نے پیغمبر صلعم پر زور دیا کہ آپ ضرور اپنی کیبنٹ سے ' اپنی پارلیمنٹ سے ' اپنی شوریٰ سے مشورہ طلب کریں ۔ (عربی) تو یہاں بعض مسائل میں پارلیمنٹ کو by pass کرنا یا پارلیمنٹ کو اہمیت نہ دینا یہ اللہ اور اس کے رسول صلعم کی تعلیمات کی خلاف ورزی ہے ۔

جناب چیئرمین! جب سے پاکستان بنا ہے ، آج تک کسی پارٹی کی حکومت آئی ہی نہیں ، یہاں چیئرمینوں کی حکومت ہوتی ہے ' یہاں بااثر اداروں کی حکومت ہوتی ہے ' ان کی مرضی ہوتی ہے کہ کسی پارٹی کو چلتا کریں اور کسی پارٹی کو لے آئیں۔ جناب والا! اگر ہمارے ملک کے اندر پارلیمنٹ کی حکومت ہوتی تو پچاس سال سے ہم احتساب کی بات کرتے ہیں ' پچاس سال سے ہم ملک کے جمہوری نظام کی بات کرتے ہیں ' یہ باتیں نہ ہوتیں۔ میری تجویز یہ ہے کہ ایک دوسرے کو موردالزام ٹھہرانا غلط ہے کہ آپ کی حکومت نے یہ کیا ہے اور آپ کی حکومت نے یہ کیا تھا۔ آخری بات کہوں گا' جب مولانا ہزاروی ممبر قومی اسمبلی تھے تو دو ممبران نے ایک دوسرے پر الزام لگایا۔ ایک نے کہا کہ آپ چور ہیں ' دوسرے نے کہا کہ آپ چور ہیں' مولانا ہزاروی سے کسی نے پوچھا کہ مولانا آپ کیا کہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ دونوں ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ایک دوسرے کو موردالزام ٹھہرانا کہاں کا انصاف ہے ۔ اس ملک کو چلانا ہے 'ہم سب محب وطن ہیں اور اس ملک کے لیے حب الوطنی من الایمان' مملکت کے ساتھ محبت کرنا' ایمان کی علامت ہے ۔ یہ ایمان ہے اور ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم اس ملک کو امن کا گہوارہ بنائیں لیکن ہمارے سربراہوں کی قسمت میں یہ بھی نہیں کہ اپنے پارلیمنٹ کے ممبران کو ملاقات کے لیے ہی بلائیں کہ آپ کے کوئی احساسات ہیں یا نہیں ۔ نہ ہمارے صدر صاحب نے ' نہ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے بلایا ہے اور منسٹر صاحبان سے ہم گلہ کر سکتے ہیں ۔میں یہ بھی عرض کروں گا کہ اگر ہم اس حوالے سے ملک کو چلائیں کہ یہ ملک جس مقصد کے لیے بنا تھا تو یہاں افلاس بھی نہیں ہوگا' بدامنی بھی نہیں ہوگی اور قانون کی حکمرانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اس ملک کو امن کا گہوارہ بنائیں اور ہمارے حکمران طبقے کو بھی یہ توفیق دے کہ اس ملک میں خلافت الہیہ کا نظام نافذ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔

سینیٹر ڈاکٹر شہزاد وسیم (وزیرمملکت برائے امور داخلہ):جناب چیئرمین! لیڈر آف دی اپوزیشن میاں رضا ربانی صاحب نے ایک پوائنٹ اٹھایا تھا ' میں آپ کی اجازت سے اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔

جناب چیئرمین۔ فرمائیں۔

سینیٹر ڈاکٹر شہزاد وسیم، جناب والا! مختاراں مائی کیس کے سلسلے میں یہ سوال اٹھایا گیا تھا کہ کیا ان کا نام ECL پر ہے یا وہ house arrest ہیں ۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ یہ ایک بڑا unfortunate واقعہ ہوا تھا ۔ میں background میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ میرے خیال میں زیادہ تر ممبرز کو اس کا پتا ہے اور یہ ریکارڈ پر ہے خواہ قومی اسمبلی کا فلور ہو یا یہاں ہو ہم نے ہر جگہ اس خاتون کو انصاف دلانے کی بات کی ہے اور اس کے لیے ہم نے steps بھی لیے ۔ میں صرف اتنا بتانا چاہوں گا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پہلی مرتبہ ملزمان ہائیکورٹ سے رہا ہوئے تو ہم نے ان کو 3 MPO کے تحت detain کیا ' detention 90 days کے لیے ہوتی ہے اور اس کے بعد عدالتوں کا اپنا سلسلہ ہے ' آج پھر اخبار میں تھا کہ ان کو کچھ relief ملا ہے' اور ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اس معاملے کو کس طریقے سے settle کیا جائے تاکہ عدالتوں کی writ برقرار رہے اور انصاف کے تقاضے بھی پورے ہوں۔

جہاں تک ECL پر رکھنے کا سوال ہے اس کی دو وجوہات ہیں ۔ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک ہماری کوشش ہے کہ یہ کیس اپنے منطقی انجام تک پہنچے اور انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے ملزمان کو سزا ملے۔ ماضی کی روایات یہ ہیں کہ اکثر یہ دیکھا گیا کہ جب لوگ باہر چلے جاتے ہیں تو پھر وہ کیس اسی طرح چلتا رہتا ہے اور اس کا کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوتا ۔ دوسری بات یہ بھی کہی گئی کہ مائی مختاراں کو تھوڑا security کا problem بھی ہے اور ہماری یہ بھی کوشش ہے کہ ان کی security کو ensure کیا جائے اور اس سلسلے میں بھی تمام تر اقدامات کیے گئے ہیں تاکہ ان کی security کو ensure کیا جائے اور یہ اسی کا ایک سلسلہ بھی ہے۔ جونہی اس کا سارا مسئلہ منطقی انجام کو پہنچتا ہے تو she is welcome اس کی مرضی جہاں تشریف لے جانا چاہے۔

جناب چیئرمین، ان کا point تھا کہ?has she been detained

سینیٹر میاں رضا ربانی، جناب! اس میں دو تین باتیں اور بھی ہیں اگر فاضل وزیر

صاحب سن لیں۔ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی اس کا نام ECL پر اس لیے ڈالا گیا ہے کہ اگر وہ ملک سے باہر چلی جائیں گی تو پھر case دیکھنے میں آیا ہے کہ کمزور پڑ جائے گا۔ چلیں! اگر میں اس logic کو بھی سمجھ لوں تو پھر ایک اور بڑی interesting contradiction سامنے آتی ہے کہ ECL پر مختاراں مائی کا نام ڈال دیا گیا لیکن جو اصل accused ہیں اور جو اب پھر باہر نکل آئے ہیں ان کا نام ECL میں شامل نہیں کیا گیا اور مختاراں مائی کا نام ECL پر ڈال دیا گیا ہے لیکن بات یہ نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ آج اخبارات میں جو بات چھپی ہے وہ یہ ہے کہ ECL پر اس کا نام اس لیے ڈالا گیا ہے کہ وہاں پر اس کی engagement تھی ملک سے باہر Amnesty International کے ساتھ اور کیونکہ پاکستان کا soft fame باہر جا کر خراب ہو گا لہٰذا مختاراں مائی کا نام ECL پر ڈال دیا جائے لیکن جو accused ہیں ان کا نام ECL پر ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے' ایک بات۔

دوسری بات یہ ہے جناب چیئرمین صاحب! کہ جہاں تک کورٹ کا تعلق ہے تو I am sorry, I was wrong at that time, court نے ان کو release نہیں کیا۔ یہ review board ہے۔ Review Board نے ان کو release کیا ہے اور review board with due respect.........

جناب چیئرمین، وہ بھی کورٹ کا حصہ نہیں؟

سینیٹر میاں رضا ربانی، نہیں جناب! this is review board under the MPO. جہاں اگر تین مہینے سے زیادہ کی detention ہو تو وہاں پر ہوتا ہے۔

جناب چیئرمین، لیکن initially کس نے release کیا تھا جب MPO میں پکڑے گئے۔

سینیٹر میاں رضا ربانی، Initially تو کورٹ کی بات ہے لیکن آج کی جو خبر آئی ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ Review Board نے ان کو release کیا ہے اور Review Board جو ہے وہ administrative function ہے لہٰذا وہ بغیر حکومت کی ایماء یا حکومت کی

رضا کے release نہیں ہوئے۔ عموماً تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ MPO کے تحت جو review boards بنتے ہیں وہ Home Department کی ایماء پر چلتے ہیں۔ Provincial ہے لیکن Home Department کی ایماء پر وہ چلتے ہیں۔ لہٰذا یہ کہنا کہ جی وہ کورٹ کا decision ہے I was wrong in the first instance, it was not court decision. تیسری بات جو میں عرض کرنا چاہوں گا جناب! کہ وزیر صاحب نے یہ categorically بات نہیں کہی کہ آیا وہ house arrest ہے یا نہیں اور اس کی protection کا دس دن پہلے ان کو خیال نہیں تھا۔ اس کی protection کا آج دس دن گزرنے کے بعد ان کو خیال آ گیا ہے کہ اس کو protect کرنا ہے۔ اگر آپ اس پوری story کو دیکھیں تو یہ پوری story وہیں پر جا کر link up ہوتی ہے کہ کیونکہ اس کو Amnesty International نے باہر بلایا ہے اور اس کو نہیں جانے دینا۔ لہٰذا اس کا نام ECL پر بھی آ گیا ہے اور اس کو house arrest بھی کر دیا گیا ہے اور house arrest کے اگر ان کے پاس warrant ہیں تو وہ warrant دکھائیں کہ جی کس کے تحت کیا ہے

otherwise under what provision of law an ordinary citizen of Pakistan is being restricted to stay within her house and a police party is stationed outside the house. Are we a police state?

مجھے پھر کہنا پڑتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک عام پاکستانی کے ساتھ یا عام شہری کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ مختاراں مائی کا کیس اٹھا کر دیکھ لیں یا وہ Rangers کا کراچی کا کیس اٹھا کر دیکھ لیں جس میں Roman Gladiator کی طرح ایک عام شہری پر آ کر کھڑا ہوا ہے۔ ہم کس سمت اپنے معاشرے کو اور پاکستان کے ایک عام شہری کی زندگی کو لے کر جا رہے ہیں we are turning it to a fascist police state.

جناب چیئرمین: جی منسٹر صاحب۔

سینیٹر ڈاکٹر شہزاد وسیم: جناب! honourable Member نے بات کو ایک نیا رخ دینے کی کوشش کی، میں پھر record کی درستگی چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ECL پر ان

کا نام آج نہیں آیا۔ انہوں نے کہا کہ جی Amnesty International نے اسے invite کیا تھا
تو اس کا نام ECL پر ڈال دیا گیا تو یہ آج نہیں ہوا ہے' یہ اس سے پہلے کا ہے۔ دوسری بات'
اگر میں ان کی یہ بات مان بھی لوں' میں ذرا موضوع سے ہٹ کر تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا
کہ اگر soft fame of Pakistan کی یہ بات کرتے ہیں تو کیا یہ soft sphare جو ہے پاکستان
کا یہ سب کی collective responsibility نہیں ہے۔ Dirty linen غیروں کے سامنے دھونا
ہی اگر ملک کی سب سے بڑی خدمت ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اس سے اختلاف ہوگا۔ انہوں
نے کہا کہ house arrest کیا گیا۔ مجھے یاد ہے کہ اس سے پہلے ہر طرف سے request آئی
تھی کہ اس کو security فراہم کی جائے اور جب اس کو security فراہم کی جاتی ہے' جب
وہاں پر گارڈ لگائی جاتی ہے' جب اس نے movement کرنی ہوتی ہے تو ان کو پولیس
protection دیتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ کیا یہ پولیس سٹیٹ ہے؟ یہ منطق میری سمجھ سے
باہر ہے۔ میں یہ assure کرانا چاہتا ہوں کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ مختاراں مائی کو مکمل
security provide کی جائے۔ ہوا جناب! یہاں یہ تھا کہ شروع میں جب یہ مسئلہ اٹھا تو چند
NGOs نے بھی اس کو ایک دوسرا رخ دینے کی کوشش کی اور جس طریقے سے ان کی
movement تھی، ہمیں یہ اطلاع تھی کہ ان کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ تو ہم نے اس وقت
بھی ان سے request کی تھی کہ ہم اس مسئلے میں آپ کے ساتھ ہیں لیکن جہاں تک اس کی
security کا تعلق ہے اس کی کچھ conditions ہیں جوکہ پوری کرنی چاہییں۔ تو میں یہ بتانا
چاہوں گا کہ وہ کسی قسم کے house arrest میں نہیں ہے۔ ان کو movement کی اجازت
ہے لیکن ان کی security کو ensure کرنا یہ state کی ذمہ داری ہے۔

سینیٹر مہیم خان بلوچ، جناب چیئرمین! میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ
چند دن پہلے میں نے کہا تھا کہ ڈاکٹر امداد اور ان کے ساتھی گرفتار ہوئے۔ وہ دو ماہ تک قید میں
رہے' پھر رہا ہوئے اور ڈاکٹر امداد نے پریس کانفرنس کی کہ میرے ساتھ ذہنی اور جسمانی زیادتی کی
گئی ہے۔ اس کے علاوہ اب اللہ نذر بمع سات ساتھیوں کے تین ماہ سے لاپتا ہیں اور قید میں

ہیں------

جناب چیئرمین، اس وقت ایک point raise ہوا ہے اس پر بات ہو رہی ہے۔ آپ اس کو باقاعدہ move کر دیں۔ اس کا جب موزوں وقت ہوگا اس وقت آپ اس کو raise کر لیں۔ تشریف رکھیں۔

I think, we now adjourn the House to meet again at 3.15 p.m. Thank you.

[The House was then ad journed to meet again at 3.15 p.m]

....

[The House re-assembled with Mr. Chairman in the Chair]

....

جناب چیئرمین، طاہرہ لطیف صاحبہ۔

سینیٹر طاہرہ لطیف، بسم اللہ الرحمٰن الرحیم۔ جناب چیئرمین صاحب! میں وزیر اعظم شوکت عزیز صاحب اور ان کی ٹیم کو دلی مبارکباد دیتی ہوں کہ انہوں نے ملک کے موجودہ اقتصادی، معاشی اور سیاسی حالات کے مدنظر یہ متوازن بجٹ پیش کیا ہے۔ اس کو ہم ایک عوام دوست اور common friendly budget کہہ سکتے ہیں۔جناب چیئرمین! سرکاری ملازمین ہمارے ملک کا پسا ہوا طبقہ ہے اور ان کی تنخواہوں میں ۲۲ سے ۳۰ فیصد اضافہ ایک خوش آئند بات ہے اور ان کے لیے حوصلہ افزاء بات یہ ہے کہ ان کے ہاؤس رینٹ میں 100% اضافہ کیا گیا ہے۔یہ ایک بہت بڑا قدم ہے کیونکہ وہ ملازمین جن کے پاس سرکاری گھر نہیں ہیں وہ اس سے بہت زیادہ مستفید ہوں گے اور پنشن میں بھی اضافہ کیا گیا ہے۔انکم ٹیکس کی شرح کم کر دی گئی ہے اور سرکاری ملازمین بالخصوص تنخواہ دار طبقہ کو گوشوارے جمع کرانے سے مستثنیٰ قرار دیا گیا ہے۔ جہاں حکومت نے تنخواہوں میں اضافہ کیا ہے وہیں مہنگائی کم کرنے کی تدابیر بھی کی گئی ہیں۔مثال کے طور پر غریب طبقے کی استعمال کی چیزیں مثلاً سائیکلیں وغیرہ سستی کر دی گئی ہیں جس سے نچلے طبقے اور ملازمین کو بہت فائدہ ہوگا۔ بیواؤں اور یتیموں کے لیے خصوصی اعلان کیا گیا ہے کہ

ان کے ایک لاکھ کے قرضے معاف کر دیئے جائیں گے جو وہ ہاؤس بلڈنگ فنانس کارپوریشن کو واپس کرنے سے قاصر تھے۔صنعت و تجارت پیشہ لوگوں کو بہت مراعات دی گئی ہیں جس کے نہایت اچھے اثرات مرتب ہوں گے اور روزگار کے مواقع ملیں گے ، غربت کم ہوگی ۔ اسی طرح ٹیکسٹائل مصنوعات پر GST ختم کرنے سے برآمدات میں اضافہ ہوگا ، نئی صنعتیں لگیں گی اور عام لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ تجارت ترقی کرے گی ، سیاست میں استحکام پیدا ہوگا۔ جناب چیئرمین ! زراعت کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے بیج اور کھاد کی فراہمی کو بہتر بنانے کے لیے اور inputs کی دستیابی کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں۔ٹریکٹروں کی مانگ کو پورا کرنے کے لیےقرضوں کی بہتر سہولیات مہیا کی گئی ہیں۔ چیئرمین صاحب ! موجودہ حکومت عوام کے فائدے اور بہتر مستقبل کے لیے دن رات کوشاں ہے ۔ انشاء اللہ تعالیٰ ملک ترقی کی راہوں پر گامزن ہو چکا ہے اور اس حکومت کے کاموں کو سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔ دونوں ہاتھوں سے دولت لوٹنے والے چلے گئے ، ان کا دورختم ہوا ۔شاعر نے کیا خوب کہا ہے۔

دونوں ہاتھوں سے دولت کو لوٹنے والو

کفن میں جیب نہیں ہوتی دھیان رکھنا

اب میں چند دوسرے sectors کی طرف آتی ہوں۔ تعلیمی اصلاحات کی بدولت آج ہماری شرح خواندگی جو پہلے 30-40% تھی اب 53% ہو گئی ہے۔ پنجاب میں پہلی سے دسویں جماعت تک کتابیں free دی جا رہی ہیں۔ یونیفارم بھی free دیا جا رہا ہے اور بچیوں کو سکول آنے پر ماہانہ دوسو روپے وظیفہ بھی دیا جارہا ہے۔دوسرے صوبوں نے ان کی تقلید کی جس سے سارے ملک کی شرح خواندگی میں بہت اضافہ ہوا ۔ جناب چیئرمین ! میں کوئی economist تو نہیں ہوں لیکن ground reality کی بات کرتی ہوں کیونکہ میں لوگوں میں جاتی ہوں ،عوام میں جاتی ہوں۔ ہم لوگ جب عوام میں پھرتے ہیں تو ان سے بات چیت کرکے ہمیں ان کے خیالات کا اور ان کے حالات کا پتا چلتا ہے۔ Ground realities یہ ہیں کہ جدھر دیکھو نئی شاہراہیں بن رہی ہیں ۔ چاروں صوبوں میں سڑکوں کا جال بچھایا جا رہا ہے۔ Bridges اور سڑکیں بن رہی ہیں۔اس سے آمد و رفت بڑھے گی۔دھڑا دھڑ construction ہو رہی ہے۔ آج ہمارے ملک میں ایک کروڑ سے

زیادہ موبائل فونز کام کر رہے ہیں۔ شمسی توانائی کی بات ہو رہی ہے۔پن سے لکھنے کی بجائے کمپیوٹر کو استعمال کر رہے ہیں۔ریموٹ کنٹرول سے کام ہو رہے ہیں۔سڑکوں پر گاڑیاں ہی گاڑیاں نظر آتی ہیں۔ جناب چیئرمین! آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ پہلے یہ چیزیں اس طرح سے نظر نہیں آتی تھیں جو میں بتا رہی ہوں۔ تعلیم اور ترقی سڑکوں کے ذریعے ہی travel کرتی ہے۔ جناب ! یہ ترقی نہیں تو اور کیا ہے۔

وزیر اعظم جناب شوکت عزیز صاحب اور ان کی ٹیم نے ملک کو اقتصادی ترقی کی راہ پر ڈال دیا ہے اورمسلسل منصوبہ بندی، خلوص نیت،قومی جذبے، ٹیم ورک کے جذبے سے ایک ہی سال میں 8.4% GDP growth rate حاصل کر لیا ہے جو معجزے سے کم نہیں ۔ عالمی برادری میں پاکستان کا مقام اور عزت بڑھی ہے۔اگر تنقید برائے تنقید سے ہٹ کر بجٹ کا بغور جائزہ لیا جائے تو اس میں تاجروں، کسانوں،سرکاری ملازمین، غریب طبقے،بیواؤں اور یتیموں حتیٰ کہ سب کو سکھ کا سانس لینے کے لیے خاطر خواہ relief دیا گیا ہے۔ حکومت اللہ کے فضل و کرم سے آئندہ سالوں میں بھی پوری لگن سے اور دیانت داری سے عوام کی بھلائی کے لیے کوشاں رہے گی۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے مجھے ایک اہم موضوع پر بولنے کا موقع دیا۔ ایک شعر کے ساتھ اپنی تقریر کا اختتام کروں گی۔

ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو
تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے

جناب چیئرمین! اب تھوڑی سی suggestions دینا چاہتی ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ مہنگائی کو کم کرنا صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے۔ہم سب کو مل جل کر اس پر نظر رکھنی چاہیے اور اس کو چیک کرتے رہنا چاہیے۔ دکانداروں اور تاجروں کو چاہیے کہ وہ ریٹ لسٹ آویزاں کریں اور ان کو چیک کرنے کے لیے ہمارے چیف کمشنر اسلام آباد کو teams بنانی چاہئیں جو regular چیک کرتے رہیں کیونکہ حکومت تو ایک بات کر دیتی ہے، اس کی implementation بہت ضروری ہے۔ یہ جو روز سنتے ہیں کہ جی مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے اور تاجر بھائیوں سے بھی میری درخواست ہے کہ وہ بھی اپنے ہاتھ کو ہلکا رکھیں۔

دوسری میں ایک اور suggestion یہ دینا چاہتی ہوں کہ yellow-cab طرز کی کوئی transport scheme شروع کی جائے جس سے چھوٹی گاڑیاں ،ٹیکسیاں ، بسیں اور ویگنیں قسطوں پر دی جائیں تاکہ transport کی مشکل سے چھٹکارا پایا جا سکے۔ ایک اور بات کہنا چاہتی ہوں جو کسٹم اور انکم ٹیکس کے محکمے کے بارے میں ہے جس سے بہت زیادہ revenue generate کیا جا سکتا ہے۔ یہ دونوں ایسے محکمے ہیں جن کی overhauling کی ضرورت ہے۔ میرا چونکہ دیہاتوں میں ، rural area میں بہت زیادہ لوگوں سے ملنا ہوتا ہے تو کچھ اور بھی آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ حکومت بہت مضبوط ہے اور strong footings پر کھڑی ہے۔اپوزیشن والوں سے میں درخواست کرتی ہوں کہ وہ اگر بجٹ کا بغور معائنہ کریں تو یہ پہلا بجٹ ہے جس میں ہر طبقے کو relief دیا گیا ہے اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو آپ اتنا زیادہ criticise کرتے ہیں اور آج تک اپنی ہوش میں کبھی میں نے ایسا بجٹ نہیں دیکھا۔

ہمارے جو مختلف محکمے ہیں، لوگ میرے پاس آتے ہیں کوئی سی ڈی اے کے بارے میں کام بتاتا ہے، کوئی کسی چیز کے بارے میں تو میں یہ نوٹ کر رہی ہوں کہ کچھ محکمے بہت اچھا کام بھی کر رہے ہیں۔ Criticise کرنا بہت آسان ہوتا ہے، کسی کو جھاڑ دینا بہت آسان ہوتا ہے لیکن اگر کوئی اچھا کام کرے تو اس کو appreciate بھی کرنا چاہیے۔ میں کچھ محکمے کے کاموں کو بہت زیادہ appreciate بھی کر رہی ہوں کیونکہ حکومت کے یہ محکمے ایسے ہیں جو نہایت محنت اور لگن سے کام رہے ہیں۔ میں انہیں ضرور appreciate کروں گی جیسا کہ اسلام آباد میں واپڈا ہے۔اس کا ذیلی ادارہ IESCO ہے جو جہلم سے کشمیر تک بجلی فراہم کرنے کے لیے دن رات کوشاں ہے۔وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور یہ جو Interior Ministry نے دو تین دن پہلے announce کیا کہ وہ اپنے تمام ملازمین کو پلاٹ دیں گے، یہ ایک بڑی اچھی بات ہے کہ انہوں نے lower ملازمین کا سوچا کیونکہ حکومت کے ملازمین job میں ہوتے ہیں تو ان کو بچوں کی تعلیم کا مسئلہ'اس کے بعد ان کی شادیوں کا مسئلہ اور پھر retirement پر بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کے پاس رہنے کو گھر نہیں ہوتا' یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ ان کو کوئی پلاٹ یا فلیٹ وغیرہ بھی اگر مل جائے دو کمروں کی سر چھپانے کی جگہ تو یہ ایک بہت بڑا قدم ہوگا۔

جناب چیئرمین! بس ان چیزوں کے ساتھ میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں بہت مہربانی۔

جناب چیئرمین، رضا صاحب! I think اس وقت ادھر سے اور speakers ہیں تو I will deal with the Government's speakers جو موجود ہیں۔ پری گل آغا صاحبہ۔ ڈاکٹر خالد رانجھا۔

سینیٹر ڈاکٹر خالد رانجھا، جناب چیئرمین! آپ کا مشکور تو ہوں ہی، زیادہ House کا مشکور ہوں کہ آج میری باری آ گئی ہے، مجھے پتا ہے میری باری آخر میں تھی اور جیسے کہتے ہیں کہ مجھے بات کرنے کا اتفاقیہ موقع مل گیا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہم Upper House ہیں کیونکہ آپ debate کو regulate کر رہے ہیں اور اتفاق سے رضا بھائی بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے بارہا کہا ہے کہ ہمیں House کو قانون اور آئین کے مطابق regulate کرنا چاہیے، ہم نے اس بحث میں شاید ہی کوئی بات ہو جو نہ کی ہو۔ میں یہ کہوں گا کہ ہم نے ہرقسم کی بات کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایوان بالا کا جہاں تک بجٹ کا تعلق ہے، ہمارا ایک بڑا مخصوص focus ہے اور ہم سب اس focus سے ہٹ کر بات کرتے ہیں۔ ہم نے اپنے آپ کو convert کیا ہے گویاکہ National Assembly میں جیسے ہمیں اختیار ہو کہ ہم cut motions پیش کر سکتے ہیں، ہماری سوچ کچھ یوں ہے کہ ہم National Assembly میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ درحقیقت ہم آئین کی دفعہ 73 میں رہ کر سوچیں تو we can make only suggestions in respect of the Finance Bill لیکن اتفاق سے ہم اس point پر ہرقسم کی بات کر سکتے ہیں۔ لہذا، آپ نے اجازت دی اور ہم کرتے رہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو بجٹ ہے، یہ حکومت کی پالیسی کی عکاسی کرتا ہے، یہ حکومت کی priorities کی عکاسی کرتا ہے ۔ ہم سب نے یہاں سے اس بجٹ کو متوازن بجٹ کہا، ہم سب نے کہا کہ جو شعبہ زراعت ہے جو شعبہ تعلیم ہے، Health ہے حتیٰ کہ Defence ہے، ان تمام شعبہ ہائے حکومت نے ایک بڑا متوازن بجٹ پیش کیا ہے۔ ہم نے یہ بھی بات کی کہ NFC Award بھی ہونا چاہیے، ہم نے یہ بھی بات کی کہ جب تک صدر صاحب Joint Sitting کو

address نہیں کرتے، اس وقت تک proceedings illegal ہیں۔ میں اس کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ میری نگاہ میں جو چیزیں relevant نہیں ہیں، ہم نے اس کو موضوع گفتگو بنایا اور آپ نے بڑی مہربانی کی، آپ سنتے رہے۔ میں آج جس چیز کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا' Finance Bill پر بات ہو رہی تھی کہ حکومت کی پالیسی کیا ہونی چاہیے۔ اتفاق سے مولانا شیرانی آئے ہوئے ہیں، میں تھوڑی دیر پہلے ان سے بات کر رہا تھا کہ بھوک ہو' افلاس ہو ' جو مرضی ہو اگر انصاف نہ ہو تو ہم نہیں رہ سکتے۔ جیسے کہتے ہیں کہ ظلم کی حکومت رہ سکتی ہے' بے انصافی سے حکومت نہیں ہوسکتی۔ اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ آج اس House میں تین دن گزر گئے ہیں' اس بات پر توجہ نہیں دی گئی کہ یہ جو نظام عدل ہے' کیا اس پر بھی ہمارے بجٹ میں کوئی emphasis ہے۔ میں بڑے ادب سے کہتا ہوں کہ this is ignored aspect of the governance اور آپ کی وساطت سے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں نظام عدل میں جو خامیاں ہیں' وہ تو بے شمار ہیں لیکن اصل بات جو ذکر کرنے والی ہے کہ کس حد تک حکومت کا focus ہے۔ بارہا کہا گیا ہے کہ ہم کھالیں پکی کر رہے ہیں' بارہا کہا گیا کہ ہم تنخواہیں بڑھا رہے ہیں' ہمارے پاس سرکار کے یا private sector سے کتنے ملازم ہوں گے ' 8 لاکھ ہوں گے' 10 لاکھ ہوں گے' 15 لاکھ ہوں گے لیکن وہ لوگ جو دیہات میں کام کر رہے ہیں' جو 75% دیہات میں ہیں ان کو اس کا کیسے فائدہ پہنچے گا۔

میں بات شعبہ انصاف کی کر رہا تھا' اس کے تین حصے ہیں' ایک عدالت اور جیل خانہ جات۔ آج پوری قوم کا نظام عدل پر بالکل اعتماد نہیں۔ میں پرویز مشرف صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ جہاں آپ مختلف چیزوں کو own کر رہے ہیں' جیسے ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب کہتے ہیں کہ میں شعبہ تعلیم کو own کر رہا ہوں' وہ پڑھا لکھا پنجاب کی بات کرتے ہیں' ایسے ہی میں سمجھتا ہوں کہ صدر مملکت should own the judicial system in the country, make this as a fraction اور پورے ملک کو کہیں کہ ہاں جی چونکہ اسلام کی پہچان نظام عدل ہے' مجھے کوئی غلط نہ سمجھے' اسلام کی پہچان عبادت نہیں ہے' اسلام کی پہچان نظام عدل ہے' چونکہ ہم ایک اسلامک ملک ہیں لہذا میں سمجھتا ہوں کہ اگر دنیا کو یہ نہیں دکھا سکتے کہ ہمارا

نظام عدل تمام دنیا سے بہتر ہے تو آپ یہ نہیں کہہ پائیں گے کہ ہمارا مذہب ہی تمام مذاہب سے بہتر ہے۔ ہمارا مذہب تمام مذاہب سے بہتر اس لئے تھا کہ اس میں جو نظام عدل تھا وہ کسی اور مذہب میں نہیں تھا۔ مجرم کون ہے؟ یہ کہنا کہ ہم نے عدالت بنائی ہوئی ہے، ہمارے پاس سپریم کورٹ ہے، ہمارے پاس ہائیکورٹ ہے، ہمارے پاس سیشن کورٹ ہے، ہمارے پاس فیڈرل شریعت کورٹ ہے، میں سمجھتا ہوں صرف ان عدالتوں کا ہونا یا نہ ہونا is not evidence کہ ہمارا emphasis نظام عدل پر ہے۔

ہم بجٹ میں کہتے ہیں کہ ہم نے نظام تعلیم پر اتنے پیسے مختص کئے ہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نظام تعلیم کو own کر رہے ہیں، اس کو آپ فخریہ انداز میں کہتے ہیں کہ جی پہلے کبھی اتنے پیسے نہیں دیئے تھے، میں اسی انداز سے کہہ رہا ہوں کہ اگر ملک میں انصاف فراہم نہیں کر سکتے تو پھر سمجھیئے کہ ہم کچھ نہیں کر رہے۔ بس جب تک آپ اس کو own نہیں کریں گے، جب بجٹ اس بات کی reflection نہیں دے گا کہ ہاں جی نظام عدل کے لئے ہم نے پہلے ہزار روپیہ رکھا تھا، آج ہم تین ہزار روپیہ رکھ رہے ہیں۔ ہم پچھلے چار سال سے بارہا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ADB سے 350 ملین ڈالر ملا ہے اور یہ قرضہ ہم نظام عدل پر صرف کر رہے ہیں۔ کہیں نظر نہیں آیا۔ آپ بتا دیں کہ پچھلے تین سال میں اس 350 ملین ڈالر کے تصرف سے لوگوں میں اعتماد کہاں نظر آیا ہے۔ جب تک عوام کا اعتماد عدالتوں پر نہیں ہوگا اس وقت تک ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے ملک میں نظام عدل ٹھیک ہے۔

پہلی خامی کیا ہے؟ Parallel judicial system ہم نے ہر صفحے پر دو عدالتیں بنائی ہوئی ہیں، ایک کو ہم عدالت سمجھتے ہیں اور دوسری کو ہم کینگرو کورٹ سمجھتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پیسے کا ضیاع ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس فیڈرل شریعت کورٹ ہے، آئین میں اس کی بڑی اہمیت ہے، ہم میں سے کتنے لوگوں کو فیڈرل شریعت کورٹ پر اعتماد ہے، اس پر باہر کے کتنے لوگوں کا اعتماد ہے، عدلیہ کا اپنا کتنا اعتماد ہے۔ جس جج کو آپ نے کہیں پھینکنا ہوتا ہے اس کو آپ فیڈرل شریعت کورٹ میں پھینک دیتے ہیں۔ آپ نے جو parallel judicial system بنایا ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں اس پر نظرثانی کرنی چاہیے، میں یہ بات بطور

مسلمان کر رہا ہوں کہ فیڈرل شریعت کورٹ بنا کر ہم نے نفاذ شریعت کو کوئی طاقت یا تقویت نہیں بخشی بلکہ ہم نے شریعت کو کمزور vehicle دے دیا ہے۔ 26 ' 25 سال ہو چکے ہیں اور آج تک آپ شریعت لاء کو نافذ نہیں کر پائے نہ بذریعہ حدود اور نہ بذریعہ ضابطہ قانون جو ہمارے پاس ہے چونکہ جو conveyor belt ہے وہ کمزور ہے' conveyor belt پر اعتماد نہیں ہے' چونکہ اس پر اعتماد نہیں ہے اس لئے نفاذ شریعت' نفاذ اسلامی قوانین نہیں ہو پا رہا۔ میں آپ کی وساطت سے صدر مملکت سے یہ کہوں گا کہ نظام عدل کو اس انداز میں own کریں جس انداز میں انہوں نے کشمیر کو own کیا ہے ۔ اسی انداز میں جس میں انہوں نے دہشت گردی کو own کیا ہے ۔ اسی انداز میں جس میں وہ کہتے ہیں کہ اعتدال پسندی ہونی چاہیے ۔ اسی انداز میں کہنا شروع کردیں کہ مجھے اس ملک میں انصاف چاہیے۔ مجھے اس ملک میں صحیح نظام عدل چاہیے۔ اور وہ تب ہوگا جب بجٹ میں آپ یہ دکھا پائیں گے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ نظام تعلیم کو ہم emphasis دے رہے ہیں' جیسے کہتے ہیں ہم دہشتگردی سے نمٹ رہے ہیں اسی انداز میں پوری قوم کو دکھائیے کہ نظام عدل پر ہمارا emphasis ہے ۔ جب تک وہ نہیں ہوگا جب تک budget reflect نہیں کرے گا ۔ میں سمجھتا ہوں ہم روز بات کرتے ہیں مسلم امہ کی ۔ لیکن جب موازنہ کرتے ہیں نظام عدل کا پاکستان میں اور سعودی عرب میں تو خواہش کرتے ہیں کہ کاش کہ ہمارے ہاں بھی اس قسم کا نظام ہو جیسا کہ سعودی عربیہ میں ہے ۔ سواتی صاحب مجھے گھور گھور کر دیکھ رہے ہیں ان کا خیال ہے امریکی نظام بہت اچھا ہے۔ میں بالکل ان کی تائید کرتا ہوں۔ وہ نظام جس پر لوگوں کا اعتماد ہو' جو بھی آپ نظام رکھتے ہیں ۔میں نہیں کہتا کہ سعودی نظام یہاں ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے دوست جو فاٹا والے ہیں' ان کا نظام بہت اچھا ہے چونکہ لوگوں کو اس پر اعتماد ہے ۔امریکہ والے لاکھ کہیں یہ تو بڑا بربریت والا ہے یہ اچھا پہلو نہیں ہے ۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہر معاشرے میں جو بھی قانون یا نظام ہو اگر لوگوں کو اس پر اعتماد ہو تو بہت اچھا نظام ہوتا ہے ۔ ہمارے ہاں ایک نظام عدل کی مشین موجود ہے ۔ ہمیں کوئی مزید ضرورت نہیں ہے ۔ .We only need oil for the existing machinery اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے oil کردیں' اس کو صحیح emphasis دے دیں ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک

سال میں آپ تبدیلی لا سکتے ہیں۔ آج تک کسی حکومت نے خواہ elected ہو خواہ non-elected ہو، کبھی عدلیہ پر توجہ نہیں دی ۔ ایگزیکٹو ہمیشہ اپنے آپ کو عدلیہ سے متحارب محسوس کرتی ہے ۔ جیسے ہمارے دوست بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں، Treasury Benches والے بیٹھے ہوئے ہیں یا حکومت جو ہے اپوزیشن کو فنڈز نہیں دے رہی ۔ اسی انداز میں، میں کہہ رہا ہوں کہ جو انتظامیہ ہے وہ عدلیہ کو اپنا متحارب سمجھتی ہے ۔ لہذا اس کو own نہیں کرتے ۔ یہ بنیادی وجہ ہے کہ لوگوں کو عدلیہ پر اعتماد نہیں ہے ۔ اور عدلیہ جو ہے by itself, it is no isolation عدلیہ کے دو wings ہیں ۔ ایک ونگ جیلخانہ جات ہے دوسرا ونگ اس کا پولیس ہے ۔ ان دونوں میں بھی جب تک اعتماد نہیں ہوگا اس وقت تک آپ عدلیہ پر اعتماد بڑھا نہیں پائیں گے ۔ اور میں گزارش کروں گا کہ

we should devise a package which entails judiciary police and the jails so that people at the lower level start believing that yes, we have judicial system and we should have faith in it. .

جو دوسری بات میں کرنے والا ہوں آج کے بجٹ کے تناظر میں وہ ہے کہ ہمارا emphasis کیا ہو۔ہم نے کہہ دیا کہ جی ہم بہت کام کر رہے ہیں زراعت کی طرف، ہم بہت کام کر رہے ہیں کسان کی طرف۔ تو میں کہوں گا کہ جب ہم یہاں پر گفتگو کرتے ہیں تو ہم ہر چیز پر ایک آواز میں گفتگو کرتے ہیں کہ جی پنکھا بھی نہیں ہے، پانی، ہوا اور بجلی بھی نہیں ہے، we club our problems جیسے میں بات کر رہا تھا نظام عدل کی، اسی تناظر میں کہوں گا بات کریں کھالوں کی، نالوں کی، ان کا distinct effect ہے ۔ اصل بات emphasis کی ہونی چاہیے ۔ جب تک آپ کی رسائی کچن تک نہیں ہوتی، جب تک حکومت پاکستان یہ نہیں clear کرسکتی کہ کچن کو ہم نے regulate کرلیا ہے، کچن کو ہم نے own کرلیا ہے، جو کچن کی چیزیں ہیں وہ سستی ہیں، اس وقت تک آپ جو مرضی ہے بات کریں ۔ہمارا foreign exchange اتنا ہوگیا ہے، ہماری GDP اتنی ہوگئی ہے، ہماری بجلی اتنی ہو گئی ہے، ہمارے کھالے پکے ہو رہے ہیں، these things do not mean a thing for the public. جب تک آپ یہ نہیں

کہہ پاتے اور کچن کا جو سامان ہے، آٹا، چاول، دال، گھی، گیس، جب تک یہ چیزیں آپ سستی نہیں کریں گے اور سستی کے لیے بات ہو رہی تھی، ہم نے 72 ارب روپیہ دیا ہے subsidy پر، اگر subsidy دے دی ہے کاروں میں، industry میں تو میں سمجھتا ہوں its of no consequence. Subsidy دینی ہے تو دیجیئے in the kitchen items پر تاکہ کچن میں تبدیلی راتوں رات آ سکے۔ اگر آپ نے ایک مستحکم حکومت رکھنی ہے، اگر آپ نے ایک اچھی حکومت رکھنی ہے تو دو چیزوں پر آپ کو چاہیے کہ یکساں emphasis دیا جائے۔ ایک کچن پر دوسرا نظام عدل پر اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر بجٹ میں ان دونوں چیزوں کا خیال رکھا جائے تو اس کے بعد we can have a totally different scenario in the country. تب میں کہوں گا کہ بجٹ متوازن ہے، عام آدمی کا ہے اور اس میں پوری قوم اور ملک کی بہبود ہے۔ میں آپ کا بڑا مشکور ہوں۔ شکریہ جناب۔

جناب چیئرمین، جناب نصیر مینگل۔

سینیٹر میر محمد نصیر مینگل (وزیر مملکت برائے تیل اور قدرتی وسائل)، بسم اللہ الرحمٰن الرحیم۔ جناب چیئرمین! بہت شکریہ کہ مجھے بولنے کا موقع دیا۔ جو بجٹ پیش کیا گیا ہے، اس سلسلے میں، میں وزیر اعظم کو جو وزیر خزانہ بھی ہیں اور عمر ایوب صاحب کو جو وزیر مملکت برائے خزانہ ہیں، جنہوں نے بجٹ پیش کیا، ان کو مبارکباد دیتا ہوں بلکہ پوری قوم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ان حالات میں جو بجٹ پیش کیا گیا ہے اس سے بہتر اور مناسب بجٹ نہیں پیش کیا جاسکتا تھا۔ ہر شعبے میں کوشش کی گئی ہے کہ relief دیا جائے اور سرمایہ کاری کے لیے بھی مواقع مہیا کیے گئے ہیں، روزگار کے بھی مواقع ہیں تو مجھے امید ہے کہ اس سے اچھے تاثرات ہوں گے اور taxes کا بھی اتنا زیادہ نفاذ نہیں ہوا ہے۔

سب سے پہلے زراعت کا شعبہ، چونکہ پاکستان بالعموم اور بالخصوص بلوچستان زرعی علاقہ ہے اور اس سلسلے میں زراعت میں جو سہولتیں دی گئی ہیں، جیسے ٹریکٹروں کی درآمد free of duty کی اجازت دی گئی ہے، اس سے بھی لوگوں پر اچھا اثر پڑے گا۔ یہاں اتنے ٹریکٹر نہیں

ہیں تو دستیاب ہوں گے اور خاص طور پر ہمارے میدانی اور بارانی علاقے جہاں بلڈوزر کی ضرورت ہوتی ہے، تو بلڈوزر import کیے جا رہے ہیں جن میں سے 200 بلڈوزر صرف بلوچستان کو دیے جائیں گے۔ یہ ایک خوش آئند چیز ہے۔ اس کے علاوہ پچھلے دنوں جب ہمارے علاقے میں صدر صاحب آئے تھے اور انہوں نے قرضہ جات پر سود کی معافی کا اعلان کیا تھا اس سے بھی اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ ساتھ ہی ایسی job opportunities ہیں جن سے روزگار کے مواقع مہیا ہوں گے خاص طور پر oil and gas کی field میں یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ exploration oil and gas کی ہو۔ اس سلسلے میں وزیر اعظم صاحب نے ہمیں ہدایت کی اور ہم لندن گئے، وہاں کانفرنس کی، نیدرلینڈ گئے، اللہ کا شکر ہے کہ 25 بلاک بک چکے ہیں جس میں multi-national companies اور دوسرے لوگ شامل ہیں۔ 54 wells ابھی تک complete ہوئے ہیں اور ہمارا 100 target کا ہے کہ اس طریقے سے اگر گیس کی دستیابی ہو جاتی ہے تو oil کی قیمت کم ہوگی اور دوسرے alternates of energy پر ہم انحصار کریں گے۔ اس سے ہمیں بہت سے فائدے ہوں گے۔

ساتھ ہی سب کو دعوت دی گئی ہے۔ ابھی ہم صدر صاحب کے ساتھ باہر گئے تھے۔ قطر کے امیر سے ملے، businessmen سے ملے، UAE میں ملے اور اس سے پہلے وزیراعظم کے ساتھ میں سعودی عرب گیا تھا اور ان سب کو کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں آکر آپ سرمایہ کاری کریں۔ لوگوں نے آنے کا عندیہ دیا ہے اور مجھے یہ خوشی ہے کہ ہمارے سربراہ حکومت شوکت عزیز صاحب ہیں، جب ہم سعودی عرب گئے تو پرنس عبداللہ نے کہا کہ 20 سال تک یہ ہمارے ساتھ کام کرتے رہے ہیں اور وزیر خزانہ وغیرہ نے یہ کہا کہ ہماری معیشت کی بہتری میں ان کا کردار ہے۔ مہاتیر سے جب ہم ملے تو انہوں نے کہا کہ وہاں جو تبدیلی لائی گئی ہے ان کی اس میں کافی contributionہے۔ ابھی ہم جب قطر اور یو اے ای گئے سب لوگوں کا یہی تاثر تھا۔ ہمیں امید ہے کہ جو حکومت کے سربراہ ہیں وہ ایک ماہر معاشیات اور اقتصادیات ہیں، جب باقی ملکوں میں انہوں نے اچھے کارنامے سرانجام دیئے ہیں، ان کی معیشت کو سنوارنے میں contribute کیا تو یہاں ان کی کوششوں سے معیشت پر اچھے اثرات مرتب ہونگے۔ پرنس ولید جب آئے تھے اور ان

سے جب بات ہوئی، وہ دنیا کے چوتھے سب سے بڑے سرمایہ دار ہیں' انہوں نے کہا کہ ہم نے investment اس لئے شروع کی ہے کہ پاکستان کے حالات موافق ہیں اور قیادت ایسے شخص کے ہاتھوں میں ہے اور ہمیں امید ہے کہ یہاں سرمایہ کاری محفوظ رہے گی اور آگے جائے گی۔ لہذا اقتصادیات اور معیشت کے شعبے میں' تجارت کے شعبے میں ہم پرامید ہیں کہ شوکت عزیز صاحب کی قیادت میں' صدر صاحب کی سرپرستی میں ------- صدر صاحب نے جب قطر اور یو اے ای کے businessmen سے خطاب کیا تو وہ بہت متاثر ہوئے ۔ الفقدان اور دوسرے کیونکہ میں ایمبیڈر رہا ہوں' الفقدان کا پوری دنیا میں جال پھیلا ہوا ہے' اسی وقت انہوں نے رضامندی ظاہر کی کہ ہم پاکستان میں سرمایہ کاری کے لئے تیار ہیں۔ انہی چیزوں سے ہمیں امید پیدا ہوگئی ہے کہ یہاں پر غربت کم ہو گی۔ ملک اچھے خطوط پر استوار ہو گا۔

ڈیفنس کے سلسلے میں بھی دو چیزیں ہیں' ڈیفنس اور معیشت ۔ اس میں اللہ کا شکر ہے کہ دفاع میں بھی ایک مقام ہے اور ہمارے صدر کو اسلامی ممالک نے یہ پیشکش کی ہے کہ فلسطین کا مسئلہ ہو یا کوئی دوسرا آپ ہماری راہبری کریں۔ آپ آکر ان میں کردار ادا کریں۔ یہ ان کی ذاتی حیثیت نہیں ہے بلکہ پاکستان کی نمائندگی ہے۔ کشمیر کے مسئلے پر بھی جو بات چیت ہو رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر وفود آرہے ہیں۔ ابھی حریت کانفرنس کے لوگ آئے ہیں۔ کشمیر کمیٹی کے delegation وہاں پر گئے ہیں تو اس میں بھی ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ ہماری فارن پالیسی بھی صحیح جا رہی ہے۔ اس میں انشاء اللہ بہتری ہوگی اور کشمیر کا ایک باعزت اور کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق حل نکلے گا۔ اس میں بھی ہماری پیشرفت ہو رہی ہے۔

اندرونی حالات ہیں۔ دہشت گردوں کی جو activities ہیں۔ وہ suicidal activities ہیں وہ تو ہر جگہ ہوسکتی ہیں۔ لیکن مجموعی طور پر حالات تسلی بخش ہے۔ امریکہ جیسے ملک میں بھی اس قسم کے حالات ہوتے رہتے ہیں۔ بلوچستان میں کافی کام ہوئے ہیں اور مزید ہونے کے امکانات ہیں۔ گوادر پورٹ بن رہی ہے اور second phase شروع ہونے والا ہے۔ ساتھ ساتھ کوسٹل ہائی وے مکمل ہوگئی ہے۔ رتو ڈیرو' تربت وغیرہ خضدار سے ہوتے ہوئے roads نکل رہی ہیں۔ ژوب' ڈیرہ اسماعیل خان روڈ پر بھی تیزی سے کام ہو رہا ہے۔ میرانی ڈیم ہے' سبک زئی

ڈیم ہے اور دوسرے ایسے پراجیکٹ ہیں جن کا کل پرسوں کی میٹنگ میں جائزہ لیا گیا کہ ان پر کام تیز کیا جائے تاکہ وہاں پر جو احساس محرومی ہے' یا اس صوبے کو نظر انداز کیا گیا ہے اس کی تلافی ہو جائے۔ ساتھ ہی اس حکومت کو اور ہماری پارٹی کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ چوہدری شجاعت حسین صاحب جب وزیراعظم تھے انہوں نے اس اسمبلی کے floor پر اعلان کیا' ایک کمیٹی بنائی جو کہ اپوزیشن اور حکومتی ارکان پر مشتمل تھی کہ مسئلہ بلوچستان بلکہ پورے پاکستان کے مختلف مسائل کا جائزہ لیا جائے اور اس کو حل کیا جائے۔ اس میں بھی کافی پیشرفت ہوئی ہے اور رپورٹ تیار ہوگئی ہے اور اس نے ابھی implement ہونا ہے۔ ساٹھ ستر فیصد تک مسائل حل ہوئے اور احساس محرومی کم ہو گیا ہے۔ یہ بھی خوش آئند چیز ہے۔ مختلف اقدامات اس حکومت کے رہے ہیں کہ ان کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ ہر چیز مکمل نہیں ہوتی لیکن چونکہ ایک جدوجہد اور کوشش ہو جاتی ہے لہذا اہم اقدامات کئے جا رہے ہیں۔ بلوچستان کے سلسلے میں ہم کوشش کر رہے ہیں بلکہ حکومت وقت کوشش کر رہی ہے کہ زیادہ ملازمتیں دی جائیں۔ وہاں پر ترقیاتی کام کئے جائیں اور زراعت کے سلسلے میں ایک اہم اقدام ہے یہ نالیوں کا جس پر چھ ارب روپے خرچ کیے جا رہے ہیں ۔ ٹیوب ویلز ہیں 'ان کی نالیاں ہیں' لوگوں میں اتنی استطاعت نہیں کہ وہ خود تعمیر کرسکیں 'اس کا بھی بلوچستان پر بہت اثرپڑے گا ۔ زراعت کے سلسلے میں بھی کافی پیش رفت ہو رہی ہے ۔ مزید یہ کہ جیالوجیکل سروے آف پاکستان کو کہا گیا ہے کہ پورے پاکستان اورخصوصی طور پر بلوچستان اور سرحد میں سروے کیا جائے اور وہاں جو possibility ہےگیس ' تیل' منرل کی ' ان کی exploration کے لئے اقدامات کیے جائیں اور اس میں کافی پیش رفت ہوئی ہے ۔ صوبہ سرحد میں کافی کام ہوا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا ۔ وہاں پر گیس نکل رہی ہے ۔ میری اپنی پاکستانی قوم سے اپیل ہے کہ حکومت جو اقدامات کر رہی ہے وہ اس کا ساتھ دیں ۔ اگر ہم گیس اور تیل میں خودکفیل ہوں گے تو پھر ہماری معیشت اچھی ہو گی ۔

جناب چیئرمین، وقت کا خیال رکھیں جی ۔

سینیٹر میر محمد نصیر مینگل، ساتھ ہی احتیاطی تدابیر کے لئے alternate کے طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ 2010 تک شاید ہمیں گیس کی کچھ problem ہو، جب تک نئی exploration نہیں ہوتی، قطر سے، ایران سے، ترکمانستان سے بات ہو رہی ہے اور ہم final stage پر پہنچ چکے ہیں۔ قطر کے ڈپٹی وزیراعظم یہاں آئے، ایران کے وزیر تیل آئے، ابھی پچھلے دنوں انڈیا کے آئے، اب ہمارے وفود جا رہے ہیں تو اس میں کافی پیش رفت ہوگی۔ ساتھ ہی چند ایسی چیزیں ہیں جن کا میں ذکر کرنا چاہوں گا۔

جناب چیئرمین، وقت کا خیال رکھیں ۔ اور بھی بہت سے speakers ہیں جنہوں نے بولنا ہے۔

سینیٹر میر محمد نصیر مینگل، جناب! میں مختصر کر رہا ہوں ۔ کہنا تو بہت کچھ ہے ۔ چند تجاویز دینا چاہتا ہوں ۔ میری ایک تجویز یہ ہے کہ بلوچستان اور سرحد Mineral point of view سے بہت rich ہیں اور یہاں پر کام نہیں ہوا ہے ۔ Agriculture Development Bank کے سروے تو ہم کرا رہے ہیں ۔ لیکن وہاں لوگوں میں اتنی سکت نہیں ہے کہ وہ وہاں پر کام کرسکیں ۔ تو ADBP کی طرز کا کوئی ایسا بنک بنایا جائے جو lease holders کو یا لائسنس والوں کو قرضہ مہیا کرے تاکہ Mineral کی field میں وہ اپنے کام کو آگے بڑھا سکیں ۔ اس طریقے سے fishries میں، چونکہ بلوچستان کے کوسٹل ایریا میں مچھلی اچھی مل جاتی ہے، ان لوگوں کو بھی قرضہ دینے کی ترکیب نکالی جائے تاکہ ان کو export کے مواقع حاصل ہوں ۔ ان کو قیمت صحیح مل جائے اور یہاں سے باہر جاسکے ۔ اس کے علاوہ بلوچستان کے لیے خصوصی پیکج ہو ۔ چونکہ یہ جو سیلاب آیا ہے اس سے مکران اور ہمارے شمالی پشتون ایریا میں کافی تباہی ہوئی ہے، وہاں کے لوگوں کی بساط میں نہیں ہے تو خصوصی پیکج دیا جائے اور سب سے زیادہ اہم چیز ہے bulldozer hours جو بارانی زمینوں کے لئے ہے تو اس کے لئے سہولت دی جائے اور اس پر یہ قدغن لگائی گئی ہے کہ ایم پی ایز، ایم این ایز، سینیٹرز ایک مختصر رقم دے سکتے ہیں ۔ میں یہ تجویز پیش کروں گا کہ maximum جتنا دے سکیں وہ دیں ۔ اس سے

چھوٹا کاشتکار مستفید ہوتا ہے' لہذا اس سلسلے میں ان کو اجازت ہونی چاہیے ۔

جناب والا! بجلی کا بڑا مسئلہ ہے' flat rate کو بحال کیا جائے اور ساتھ ہی WAPDA سے ہم یہ درخواست کریں گے اور حکومت ان کو ہدایت دے ۔ وہاں اگر لوڈ شیڈنگ آٹھ گھنٹے کی ہے تو سولہ گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے ۔ آٹھ گھنٹے بجلی آتی ہے تو وولٹیج اتنی کم ہوتی ہے کہ ان کے ٹرانسفارمر جل جاتے ہیں اور ان سے پیسہ پورا وصول کیا جاتا ہے تو اس کے لئے ایک کمیشن ہونا چاہیے جو اس کی دیکھ بھال کرسکے۔ لوگ جائز پیسہ دینے کے لئے تیار ہیں لیکن بجلی نہیں مل رہی ہے ،فصلوں کا نقصان ہو رہا ہے اور پیسے مانگے جا رہے ہیں ۔میں درخواست کروں گا کہ وہاں کے لوگوں کو یہ relief ہونا چاہیے ۔

جناب چیئرمین، تشریف رکھیں ۔ اب وقت ختم ہو گیا ہے ۔

سینیٹر میر محمد نصیر مینگل ، Irrigation کے سلسلے میں چونکہ بارانی پانی ہے ' وہ ضائع ہوتا ہے تو چھوٹے چھوٹے بند یہاں بنائے جائیں ۔ اس سے underground پانی کی سطح بھی اوپر آسکتی ہے اور وہاں پر مزید Irrigation ہوسکتی ہے ۔ اس سلسلے میں میری یہ تجویز ہے کہ اس کا کوئی special حل ہونا چاہیے ۔

جناب والا! بلوچستان میں جو سڑکیں وغیرہ بن رہی ہیں ان میں main highways کے ساتھ farm to market یا interlink roads جو دیہاتوں کے لئے ہیں ،اگر وہ بنائی جائیں تو اس سے ان کو سہولت ہو جائے گی ۔ چونکہ آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ وقت ختم ہو گیا ہے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور بجٹ کو بھی سراہتا ہوں ۔ حکومت وقت جس کا کہ میں ایک حصہ ہوں اور کابینہ اپنی کوشش کر رہی ہے کہ بلوچستان میں اور پورے پاکستان میں ترقی ہونی چاہیے اور جو میں نے تجاویز دی ہیں مجھے امید ہے کہ ان پر عملدر آمد ہو گا ۔ شکریہ ۔

جناب چیئرمین۔ ڈاکٹر شہزاد وسیم۔

سینیٹر ڈاکٹر شہزاد وسیم ، جناب والا! میاں رضا ربانی صاحب نے House adjourn ہونے سے پہلے ملزمان کے متعلق پوچھا تھا کہ وہ ECL پر نہیں' جناب والا! میں نے ریکارڈ چیک

کیا وہ ملزمان March 2005 سے ECL پر ہیں اور as desired by the honourable Member وہ انشاء اللہ ECL پر رہیں گے۔ میں صرف یہ clarification دینا چاہ رہا تھا کہ ملزمان already March 2005 سے ECL پر ہیں۔

Mr. Chairman: Thank you. Mr. Muhammad Amin Dadabhoy.

Senator Muhammad Amin Dadabhoy: Thank you Mr. Chairman. Sir, the Budget 2005-06 unveiled by the Financ Minister, I would call it a balanced one. It is a business friendly, investment friendly, relief oriented and aims at sustaining growth. It portraits huge relief to industry as well as individual. I would like to emphasize here sir, that huge relief to industry as well as individual is there. The policies chalked out in this budget will bear fruit. The tax cut will boost investment and will play pivotal role in the uplift of the economy.

جناب والا! ویسے تو بہت ساری باتیں میرے ساتھیوں نے یہاں بجٹ پر کی ہیں ' میں ان کو دہرانا نہیں چاہوں گا لیکن ایک چیز سے ضرور link کرنا چاہوں گا کہ یہاں پر میرے کچھ ساتھیوں نے بات کی تھی کہ this budget is for the rich people and not for the poor. Sir, I would like to give a few examples for that. ایک تو ہم یہ distinction کیوں کرتے ہیں کہ یہ امیر کا بجٹ ہے یا غریب کا' ہمیں یہ سوچ رکھنی چاہیئے کہ یہ بجٹ پاکستان کے پورے عوام کا ہے اور امیری غریبی کو نہ تولا جائے بلکہ یہ دیکھا جائے کہ بجٹ کے اندر جتنی بھی facilities دی جا رہی ہیں عوام کو تو چاہے وہ industrialist ہو چاہے نوکری پیشہ آدمی ہو یا چھوٹا سرمایہ دار ہو' سبھی کے لیے کوئی نہ کوئی facility یا benefit دیا گیا ہے۔

جناب والا! کسی بھی قوم کی جو economic growth ہوتی ہے جیسا کہ اس سال ہم نے دیکھا کہ ہماری economic growth 8% plus رہی ہے تو وہ صرف چندلوگوں کی وجہ سے

achieve نہیں ہوئی ہے اس میں پوری قوم کی محنت رہی ہے، پوری قوم کو اس کا benefit پہنچا ہے تب جا کر یہ achieve ہوئی ہے ۔ ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے پڑھے لکھے لوگ ہیں اور جانتے ہیں کہ جو قومیں بھی 7% plus growth rate achieve کر رہی ہوتی ہیں تو اگلے آنے والے پانچ سے دس سال کے اندر پوری قوم خوشحال ہوتی ہے نہ کہ چند لوگ۔

جناب والا! کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ industrialists کا بجٹ ہے ۔ ملک میں economic growth کے لیے industrialization سب سے زیادہ ضروری ہے ۔ جب ہم غریب لوگوں کی بات کرتے ہیں تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ غریب لوگوں کو روزگار فراہم ہو۔ روزگار اس وقت فراہم ہوگا جب ملک میں industrialization ہوگی ۔ Industrialization کی encouragement کے لیے، industry لگانے کے لیے جب تک سرمایہ دار کو benefits نہیں دیں گے تو وہ industry نہیں لگائے گا۔ تو بجٹ کے اندر اس دفعہ جو مراعات دی گئی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ نئے سال کے اندر بھی ہماری economic growth 8% plus ہی رہے گی جو کہ پوری قوم کے فائدے کے لیے ہے۔

جناب والا! یہاں میرے ایک ساتھی نے یہ بات بھی کی تھی کہ downsizing کے تحت لوگوں کو اداروں سے نکال دیا گیا، ان کو بےروزگار کر دیا گیا ۔ جناب والا! وہ بےروزگاری کا ذکر تو ضرور کرتے ہیں لیکن ہوتا کیا رہا ہے ۔ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایک ادارے کے اندر اگر ایک ہزار آدمی کی ضرورت ہے تو وہاں ڈھائی ڈھائی ہزار آدمی بھرتی کر دیے گئے تو کیا ہم اس ادارے کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں، بلکہ الٹا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ادارے کو بند کر دینا چاہتے ہیں اور جو ہزار کی capcity کا ادارہ ہے اس میں ہم نے دو ہزار لوگ بھرتی کیے ہیں تو definitely cost بڑھے گی اور وہ ادارہ بند ہو جائے گا اس طرح تو نہ ہم ایک ہزار آدمی کا بھلا کر رہے ہیں بھرتی کر کے بلکہ جو ہزار آدمی وہاں کام کر رہے تھے ان کو بھی بے روزگار کر رہے ہیں اس ادارے کو بند کر کے۔

جناب! یہاں بات ہوئی تھی کہ عام آدمی کو روزگار نہیں فراہم ہو رہا تو ایسے بہت سارے اقدامات ہیں جو کہ گورنمنٹ نے کیے ہیں، ان میں سے چند کی میں بات کروں گا۔ ہماری

labour مصروف ہوئی ہے اور لوگوں کو روزگار ملا ہے۔ جناب! پاکستان being an agriculture country ہم نے اتنے دور دیکھے ہیں لیکن کبھی بھی اس کی طرف دھیان نہیں دیا گیا۔ کینال lining کا جو سلسلہ پہلی دفعہ پاکستان میں شروع کیا گیا ہے' اس طرح منگلا ڈیم کی raising 'کا water problem کا' یہ تمام عوام کا مسئلہ ہے اور اس سے جو labour class ہے ان کو بہت سا job فراہم ہوا ہے۔

جناب! جب ہم policy کی بات کرتے ہیں تو گورنمنٹ small and medium enterprises policy frame کر رہی ہے۔ کسی بھی ملک کی growth کے لیے سب سے زیادہ small and medium enterprises کا ہونا ضروری ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ گورنمنٹ اس کی policy frame کر رہی ہے اور اس میں خیال رکھا جا رہا ہے کہ جتنی بھی جگہ ہوسکے small and medium enterprises کے لیے دی جائے۔ ان کے industrial zones بنائے جائیں اور infrastructure کی basic requirements ان کو فراہم کی جائے۔ ہم جو employment کی بات کرتے ہیں یعنی poverty alleviation کی تو یہ وہ ایک sector ہے جہاں small and medium enterprises آنے سے بہت سارے لوگوں کو روزگار فراہم ہو گا۔ اس پر بھی گورنمنٹ کام کر رہی ہے۔

جناب! یہاں پر کل ہمارے ایک colleague نے یہ بات کہی کہ 500 million کے luxurious aeroplanes Prime Minister اور President کے لیے خریدے جا رہے ہیں۔ جناب! یہ بات کہی گئی ہے لیکن وہ ہم سب کے وزیر اعظم ہیں' پورے ملک کے صدر ہیں۔ یہ تو آپ کے ملک کی شان ہے کہ جی آپ اپنے کو اچھا present کریں۔ اس چیز کو criticise کرنے سے پہلے انسان کو سوچنا چاہیے کہ past میں کیا کچھ ہوتا رہا ہے۔

جناب! Defence budget پر بھی کافی بات ہوئی۔ اس میں کوئی بھی شبہ نہیں کہ ہمارے انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر ہو رہے ہیں۔ بے شک intentions انسان کی ظاہری طور پر جو دکھائی دیتی ہیں وہ اچھی بھی ہوں لیکن ان intentions کی basis پر ہم اپنا بجٹ کم نہیں کر سکتے اپنے conventional equipments پر کیونکہ یہ ہماری conventional requirement

ہے۔ آج intention اچھی ہے، کل بری ہو جائے تو اندر کا حال تو انسان ہی بہتر جانتا ہے۔ ہم اس basis پر criticise کریں کہ defence کا بجٹ بڑھا دیا گیا ہے تو میرے خیال میں that is wrong. Defence کا بجٹ بڑھا ہے وہ ملک کے لیے ہے، بہتری کے لیے ہے۔ اس عوام کے لیے ہے۔ ماضی کی تاریخ ہمیں خود بتاتی رہی ہے کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے اس لیے اس نکتہ پر اعتراض کرنا کوئی جائز بات نہیں ہے۔

میرے دوست بجٹ کے اوپر بہت ساری باتیں کر چکے ہیں۔ میں بھی ایک دو باتیں کر کے اپنی speech ختم کرنا چاہوں گا۔ جیسے کہ textile zero rated to the entire chain of textile and export oriented industry یہ ایک بہت اچھا step ہے۔ اس سے نہ صرف textile جو ہمارے ملک کی backbone ہے

it will not only boost the export of the country but will bring more and more foreign exchange to the country

یہ ٹیکسٹائل کے لوگوں کا سب سے بڑا problem بھی تھا کہ ان کا cash flow اسی میں جمع ہو جاتا تھا۔ تو zero rated کرنے سے جو ان کے cash flows ہیں وہ بہتر ہوئے ہیں۔ اس سے exports مزید بڑھیں گی۔

جناب چیئرمین! پنشن میں اضافہ وغیرہ یہ سب غریب لوگوں کے لئے ہیں۔ اسی طرح

reduction in activation charges of cellular phone from Rs. 1000 to Rs. 500

again ایک سہولت ہے عام آدمی کے لئے۔ جناب! کاروباری لوگوں کے لئے پہلے بڑا مسئلہ تھا کہ انہیں excise وغیرہ کے ریکارڈ پانچ پانچ سال تک maintain کرنے ہوتے تھے۔ اس limit کو بھی کم کرکے تین سال کر دیا گیا ہے جوکہ بہت اچھا اقدام ہے اور کاروباری طبقے نے اس کو خاص طور پر بڑا appreciate کیا ہے۔ اسی طرح جب عام آدمی کی بات آتی ہے withdrawing excise duty on soap and detergent. جناب! یہ صابن اور detergent عام آدمی استعمال کرتا ہے۔ اس کے اوپر سے excise duty ہٹا دی گئی ہے۔ اگر یہ صرف چند باتوں کو دیکھ لیں۔ ویسے تو بہت سارے ایسے اقدامات ہوئے ہیں تو اس کے باوجود یہ کہنا کہ جی غریب

لوگوں کے لئے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عام آدمی کو اس بجٹ میں کافی فائدے پہنچائے گئے ہیں۔ جس طرح میں نے soap and detergent کی example دی ہے۔

جناب! اتنے سال گزر گئے ہیں اور پاکستان میں ابھی تک British India کے rules and regulations, excise and taxation, پولیس ریفارمز اور other reforms چلے آ رہے تھے۔ اس پر میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں Prime Minister صاحب اور ان کی ٹیم کو کہ انہوں نے پرانا existing Excise Act and Rules 1954 کو replace کیا ہے with new Federal Excise Legislatives سے جس کے اندر simple methods دیئے گئے ہیں۔ Excise کی simplification of rules and system کی گئی ہے۔

جناب چیئرمین! اسی طرح agriculture side پر بہت سارے فوائد میرے ساتھیوں نے بتا دیئے ہیں میں ان کو repeat نہیں کروں گا لیکن چونکہ یہاں پر بار بار باتیں ہو رہی ہیں کہ غریب کو کچھ بھی نہیں ملا تو میں اس حساب سے بات کروں گا کیونکہ اس side پر بھی عام کاشتکار بھائی کا تعلق ہوتا ہے۔ Agriculture کے بارے میں جیسا کہ سب نے ذکر کیا ہے اور ٹریکٹر کے بارے میں سب نے بات کی ہے۔ پھر یوریا کے اوپر جو ۵ فیصد ڈیوٹی تھی وہ ختم کر دی گئی ہے۔ 319 edible items کے اوپر decrease کی گئی ہے customs duty. اسی طرح 416 organic and inorganic chemicals کو decrease کیا گیا ہے جو کہ raw materials ہیں اور اس سے چیزوں کی قیمتوں میں کمی آئے گی۔

جناب چیئرمین، وقت کا خیال رکھیئے گا۔

سینیٹر محمد امین دادا بھائی، جناب چیئرمین! جہاں تک general public کے benefits کی بات ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ پنشن کے اندر increase ہے، سات سو سے ہزار کر دیا گیا ہے۔ Pay Scales of Government Employees Revise ہو گئے۔

Initiating basic health programme for women which is very important, in past it has been ignored a lot. Income Tax relief for the salaried class sir.

تو جناب! یہ سارے وہ اقدامات ہیں۔ چند اقدامات میں نے آپ کے سامنے پیش کئے ہیں جن سے عام آدمی کو فائدہ ہوتا ہے۔ جناب چیئرمین! اسی کے ساتھ میں اپنی speech ختم کرتا ہوں۔ ایک دفعہ پھر Prime Minister صاحب کو اور عمر ایوب صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو economic growth achievement of 8.4% پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اس امید کے ساتھ کہ آئندہ آنے والے سالوں میں بھی لوگ ہماری مثالیں دیں گے جیسا کہ میں ابھی T.V پر دیکھ رہا تھا کہ چائنا کی 9 اور کچھ points growth ہے۔ انڈیا 6.4 ہے اور ہم نے 8.4 کیا تو we are the second country in the world to achieve this growth which we all should appreciate and pray that our country should grow on the same level as it has grown this year and in the coming year so that all the world should say that Pakistan is the fastest growing country in the world level today. Thank you very much sir.

جناب چیئرمین: امجد عباس۔

سینیٹر میاں محمد امجد عباس: بسم اللہ الرحمٰن الرحیم۔

Thank you Mr. Chairman. Mr. Chairman, I will start by commending Prime Minister and his team for giving us a balanced budget. Sir, Opposition Benches have disputed his GDP growth rate like Mr. Dar, he mentioned the agriculture sector. He said the Punjab has lowered their wheat estimate.

تو اس سے growth rate کم ہو جاتا ہے۔ اس لئے میں اپنا زیادہ focus agriculture sector کی طرف ہی رکھوں گا۔ لیکن اس سے پہلے میں اپنے چند اعتراضات کی نشاندہی کروں گا جو بجٹ پر ہیں۔ جناب والا!

0.1% withholding tax on cheques, I strongly oppose it. I think, we should

go to some medium.

جناب والا! میں agriculture sector کی طرف آتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ کافی

دوستوں نے اسے appreciate کیا ہے. but I think little more should have done. یہ

ایک ایسا شعبہ ہے جو کہ backbone of the economy ہے۔ آپ کی ساری industry

whether it is the textile, sugar or anything else. In 1947, ہے agro-based

GDP کا 50% تک attribute کرتی تھی اور اب یہ 25% رہ گیا ہے because of the

present and the past Governments policies. جس طرح سے ڈار صاحب نے کہا ہے کہ

اگر ایک figure کو تھوڑا سا change کرنے سے growth rate اتنا نیچے آتا ہے اور اسی طرح

figure کو تھوڑا سا اونچا کردیں تو growth rate میں یقیناً change آئے گی۔جناب والا! جب

آپ کسی industrial policy کو اختیار کرتے ہیں تو will get the resutls in five years

but for the agriculture purposes, you will get in 6 months, twice in a year.

زراعت پر بات کرتے ہوئے ڈار صاحب نے یہ تو indicate کر دیا ہے کہ figure change سے

اتنا فرق پڑتا ہے لیکن it is very tragic that he has been the Finance Minister

and at that time آپ نے زراعت کو جو incentives دیئے تھے' یہ اب اس سے زیادہ ہیں

and these were never given before.

جناب والا! Treasury Benches کی طرف سے کسی نے feudal کا لفظ بھی

استعمال کیا ہے۔ I am quoting here Mr. Aitezaz-ud-Din Ahmad, who was

ex-Chairman, CBR and he writes that influence of feudals, handful of rural

rich is actually a critical myth that demoralize community, was politically

weak and morally hollow. They cannot defend themselves even when

justice is on their side. Sir, یہاں پر statistically آپ یہ دیکھیں کہ wheat prices

for the last three years, they have not increased much. اور آپ کا 25% GDP

earn ہوتا ہے اور 25% آپ ان پر spend کرتے ہیں جب کہ یہاں پر آپ کی 70%

population lives, which employs 50% of the unemployed and skilled labour. Sir, 1996-97 میں wheat کی support price دیکھیں یا پھر sugar cane کی دیکھ لیں. it has been stationary for the last 3/4 years. جب کہ آپ inputs کی prices دیکھیں، کھاد کی دیکھیں، یہ 3 or 4 times double ہو گئی ہیں لیکن جو آپ کو support price مل رہی ہے، وہ 42 روپے ہے۔ اسی طرح cotton کو دیکھ لیں یا کسی بھی crop کی قیمت دیکھ لیں، کوئی بھی data دیکھ لیں، اس میں less than 25% increae ہوئی ہے جب کہ inputs کی prices میں double بلکہ tripple اضافہ ہوا ہے۔

جناب والا ! when I was coming to this session, I was handed over this paper by the Pakistan Saraiki Party. میں اس کی بابت بات کروں گا that they have demanded different charters. They have written charter of demands regarding Budget 2005-06. When I was going through the PSDP Plan, I am very sorry to say, not much have been given to Southern Punjab, where we have all the cotton belt, all the revenue, rather 60% of the revenue generated by that cotton crop. Sir, one of the demand is a bridge on river Chenab at Head Muhammad Wala. This was promised by Mr. Z. A. Bhutto, during his tenure. Then it was again repeated by General Zia. It was again repeated by Benazir Bhutto, Mian Nawaz Sharif and now, President Musharraf during his referendum campaign. He has promised at two occasions.

لیکن ابھی تک ہم وعدوں پر ہی جی رہے ہیں۔ Leader of the House is there, I think that 1970 سے ایک وعدہ چلا آرہا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ حکومت ہی اسے پورا کر دے۔

جناب والا! ان demands میں انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے ۔ Southern Punjab کے لیڈر بھی Chief Ministers بنے ہیں لیکن I am very sorry to say that

Southern Punjab میں کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔

Credit goes to Ch. Pervez Elahi who has given cardiac hospital in Multan and children complex. I thank him again. Sir, we need universities in Mianwali.

کیونکہ وہاں پر بارانی علاقہ ہے، فصل نہیں ہوتی، وہاں کے لوگوں کو تعلیم کی طرف اگر ہم راغب کریں گے تو وہ اس طرف آئیں گے۔

Sir, 64% budget has been increased for the water resources but I am very sorry to say that there is no mention of the Kalabagh Dam. Sir, that is the life line of the country. Not only for the agriculture community but for the life line of the country.

اگر ہم کالا باغ ڈیم نہیں بناتے ہیں تو آپ کی بجلی اتنی مہنگی ہو گی کہ آپ کی industries چلیں گی، نہ آپ compete کر سکیں گے اور اگر اسی طرح drought کا period آیا تو we will get a hard hit by the food shortages. Sir, looking at the PSDP plan, I also went through the sports and culture. Sir, Multan is the oldest city but it is very sorry to say کہ اس کے کسی تاریخی مقام کو heritage کا رقبہ نہیں دیا گیا، اس کو protect کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا گیا۔ Sir, Mr. Bilour ایک دفعہ کہہ رہے تھے کہ جب فوارے چلتے ہیں تو Frontier کے بھائیوں کے خون کی خوشبو آتی ہے۔ Sir, let me tell him کہ Kot Addu Power Plant produces more electricity than Tarbela. They are demanding royalty. Why doesn't Punjab get the royalty when we are facing the pollution of the power plants? I am mentioning only Kot Addu Power Plant whereas there are power plants just in district Muzaffargarh and we generate much more. Sir, it is time

کہ ہم آپس میں لڑنے کی بجائے ملک کی ترقی کے لیے کام کریں۔انہوں نے کہا کہ جی چار

لکیریں نظر آتی ہیں وہ موٹر وے کی ہیں، میرے میدان دھول ہیں، نہیں، وہ بھی میرا پاکستان ہے یہ بھی میرا پاکستان ہے۔ ہم چاہیں گے وہاں بھی موٹر وے بنے۔

جس طرح میں نے کہا 0.1% withholding tax کو ختم کر کے if you put some tax on the property. آپ دیکھیں real estate کی value اتنی زیادہ اوپر چلی گئی ہے

it is not being taxed. I think that is one source of the money rather than just hindering the businesses. We should move to some other source and penetrate other sources. Sir, textile industry and ginning industry, they are against the cotton hedge trading. I am thankful to the government

کہ انہوں نے TCP کو interfere کر کے farmers کو ایک support price دلوائی لیکن کیا اگر TCP loss میں چلی جائے تو پھر farmers کا کیا ہوگا۔

We should have cotton hedge trading and I will request the government to seriously consider hedge trading. Thank you sir.

جناب چیئرمین، مسز پری گل آغا۔

سینیٹر آغا پری گل، بسم اللہ الرحمٰن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے پیارے پاکستان کے بجٹ کے بارے میں مجھے بولنے کا موقع دیا اور میں بہت زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گی کیونکہ اس بجٹ کے بارے میں میرے تمام بھائیوں نے اپنے تاثرات اور تجاویز وغیرہ دی ہیں۔ میں اپنے وزیر اعظم پاکستان اور President of Pakistan اور وزیرمملکت کو مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ انہوں نے پاکستانی عوام کے لیے اتنا اچھا بجٹ پیش کیا۔

جناب چیئرمین صاحب! میں یہ بات ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ پاکستان ہے تو تمام صوبے ہیں۔ صوبے ہیں تو پاکستان ہے۔ پاکستان ہے تو ہم ہیں۔ ہم ہیں تو پاکستان ہے۔ جناب چیئرمین صاحب! اللہ میرے پاکستان کو سلامت رکھے اور میں دعا کرتی ہوں کہ اسی طرح خوبصورت

بجٹ ہر سال پیش ہوتا رہے۔چیئرمین صاحب! یہ دیکھیں confuse کر رہے ہیں۔

جناب چیئرمین،پری گل آغا کی طرف توجہ دیں۔

سینیٹر آغا پری گل ، جناب چیئرمین صاحب! میں اپنے سینیٹرز حضرات کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں کیونکہ چاہے وہ ادھر بیٹھے ہوں یا ادھر بیٹھے ہوں، سینیٹرز، سینیٹرز ہی ہوتے ہیں۔ انہوں نے بجٹ کی اچھی تعریف کی ہے۔تھوڑا بہت اپنے ماں باپ سے ہر بچے کو گلہ ہوتا ہے۔ میں ایک بات اور کہنا چاہتی ہوں کہ اس دن ہمارے بلوچستان کےممبران نے بجٹ کی کچھ کاپیاں پھاڑیں، اس کے لئے بھی میں بہت زیادہ پریشان تھی اور یہ کہنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے اچھا نہیں کیا۔ ظاہر ہے کہ بلوچستان پر اتنے مسئلے، مسائل ہیں جناب چیئرمین صاحب! یہ مسئلے، مسائل آج کے نہیں ہیں۔ اسی طرح پاکستان کے بجٹ بنتے رہے ہیں اور آپ یقین کریں کہ انہوں نے بلوچستان پر کبھی بھی توجہ نہیں دی کیونکہ ہمیں اپنے President صاحب اور Prime Minister کا--- دیکھیں! بندے کو بات سچی کرنی چاہیے، اگر کوئی کام ہوا ہو تو سچ بولنا چاہیے کہ کام ہوا ہے، اگر نہ ہو تو پھر بھی سچ بولنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے کہ نہیں ہوا - یہ ایوان بالا ہے، اگر یہاں پر میں غلط بیانی کروں گی یا غلط بولوں گی تو ظاہر ہے کہ وہ record ہو گا تو میں کیوں غلط بات کروں؟ کیوں صحیح بات نہ کروں؟ اگر اس حکومت نے کیا ہے تب بھی میں کہوں گی کہ انہوں نے کام کیا ہے، اگر نہیں کیا ہے تب بھی میں کہوں گی کہ جناب! انہوں نے کام نہیں کیا ہے۔جناب چیئرمین صاحب! اگر کوئی محنت کرے تو اس کی تعریف ضرور کرنی چاہیے، چاہے وہ دشمن بھی ہو۔ میں اپنے دوستوں سے یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ اچھے کام کی تعریف کرنی چاہیے۔ انہوں نے بجٹ میں جتنی بھی محنت کی ہے، ہمارے کافی سینیٹرز حضرات نے بھی تجاویز دی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اس سے اچھا بجٹ اس سے پہلے پاکستان میں کبھی شاید اسمبلیوں میں پیش نہیں ہوا، مگر ساتھ ساتھ ہمارے کچھ porblems ایسے ہیں کہ اس بجٹ میں ان پر توجہ نہیں دی گئی۔

جناب چیئرمین صاحب! انہوں نے education پر توجہ دی، بہت اچھی بات ہے،

ہمارے پاکستانی بچوں کو زیادہ education دینے کی ضرورت ہے اور ان پر توجہ دینے کی بہت ضرورت ہے۔ انہوں نے صحت پر بہت زیادہ توجہ دی' بہت ہی اچھی بات ہے' جان ہے تو جہان ہے' صحت ہے تو سب کچھ ہے۔ جناب چیئرمین صاحب! میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ زراعت پر تھوڑی سی کم توجہ دی گئی۔ ٹھیک ہے' ہمارے کچھ سینیٹرز حضرات نے کہا کہ ہمیں یہ دیا گیا' وہ دیا گیا' ٹھیک ہے دیا گیا ہے' بالکل دیا گیا ہے' tractors دیئے گئے۔ آپ کو میں اپنے بلوچستان کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں کہ اس وقت بلوچستان میں بیس ' پچیس سال سے خشک سالی ہے' مگر اس سے پہلے بھی بہت زیادہ حکومتیں آئیں' میں یہ نہیں کہوں گی بلکہ میں تو President' صاحب کو appreciate کروں گی کہ جب سے جنرل مشرف صاحب ہمارے پاکستان کے President بنے ہیں' انہوں نے بلوچستان پر زیادہ توجہ دی ہے۔ اگر ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے' education میں' زراعت میں یا صحت میں تو اس سے پہلے والی حکومتوں نے اس طرف توجہ ہی نہیں دی۔ آپ یقین کریں کہ میں اس وقت MPA تھی' میں بلوچستان کے لئے بہت زیادہ چیختی رہی ' مگر کسی نے اس طرف توجہ نہیں دی۔ یہ پہلی حکومت ہے کہ اس وقت بلوچستان پر اتنی توجہ وہ دے رہے ہیں' بہت بڑی بات ہے۔

جناب چیئرمین صاحب! میں آپ کو بتا دوں کہ motorway پورے پاکستان میں بن رہی تھی' بلوچستان میں ایک کچی سڑک نہیں تھی۔ میرے ایک سینیٹر نے کل آپ کو رو رو کے اپنے دل کی آواز سنائی' مگر ان کی کچھ باتیں بالکل صحیح تھیں۔ آپ یقین کریں کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ آپ mineral water پیتے ہیں' ہم نالے کا پانی پیتے ہیں' بالکل صحیح ہے۔ ہمارے بلوچستان میں کچھ ایسے علاقے ہیں' جہاں پر نالے کا پانی بھی نہیں ہے' ہماری خواتین دور دراز علاقوں میں جاتی ہیں' وہاں سے بےچاریاں پہاڑوں پر چڑھ کر صبح سے لے کر شام تک مشکوں میں پانی بھر کر لاتی ہیں۔ اب اس حکومت نے ان علاقوں میں 500 ٹیوب ویل دیئے ہیں جہاں پر کہ کبھی پانی تھا ہی نہیں۔ ہمارے چیف منسٹر صاحب نے کافی جگہوں پر ٹیوب ویل لگائے ہیں۔

جناب چیئرمین صاحب! میں اپنی طرف سے گیس کے بارے میں ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ جو gas royalty ہے اس کا پیسہ بھی وہاں دیا جائے تو جو ہماری پسماندگی ہے وہ ختم ہو گی۔

دوسری میں یہ تجویز دینا چاہتی ہوں کہ اس بجٹ میں ہمارے لوگوں کے لئے کچھ کالونیاں وغیرہ بنائی جائیں۔ جناب چیئرمین! آپ میری اس بات پر ذرا غور کریں اور یہ تجویز آپ ضرور دیں گے کیونکہ اس سے پہلے بھی میں نے یہ تجویز دی تھی مگر پتا نہیں وہ کہاں گم ہو گئی۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مثال کے طور پر جو peons ہیں، کلرک ہیں اس سے جو اوپر کا طبقہ ہے، پریس والے ہیں جس میں کہ اخبار اور .T.V شامل ہیں، پولیس والے ہیں، ان کے لئے میں یہ تجویز دینا چاہتی ہوں کہ گورنمنٹ کچھ ایسی کالونیاں بنائے اور ان کالونیوں میں ان کو گھر دیا جائے اور تھوڑا تھوڑا ان کی تنخواہوں سے کاٹ کر وصولی کی جائے۔ پریس والے ہمارے بھائی ہیں وہ ہماری خدمت کرتے ہیں، وہ زیادہ تر coverage Opposition کو دیتے ہیں مگر میں پھر بھی ان کی favour کرتی ہوں۔ ان کے لئے بھی کوئی ایسی کالونیاں وغیرہ بنائی جائیں جس طرح آجکل پارلیمنٹیرین چل رہی ہے اور بہت سی اسکیمیں چل رہی ہیں۔ میری درخواست ہے کہ غریب عوام کے لئے بھی کوئی ایسی ہی اسکیم بنائی جائے۔ ٹھیک ہے بیواؤں کے لئے بجٹ رکھا گیا ہے۔ بہت اچھی بات ہے، ہماری پاکستانی خواتین بہت ہنرمند اور پڑھی لکھی ہیں۔ ان کے لئے چھوٹی چھوٹی schemes شروع کی جائیں تاکہ وہ کوئی چھوٹی موٹی انڈسٹری وغیرہ لگا سکیں اور باعزت روزی کما سکیں۔

جناب چیئرمین! میں یہ پندرہ بیس سال پہلے کی بات کر رہی ہوں کہ جب میں MPA تھی اور نواز شریف اور بےنظیر کا دور تھا، میں یہ بات آپ کو سچ بتا رہی ہوں۔ اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ اس وقت ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے تھے۔ اس دور میں بےنظیر نے نوکریوں پر ban لگایا، ان کا ban جاری تھا کہ نواز شریف صاحب کی حکومت آ گئی اور جب ان کا دور آیا تو اس وقت وہ بچے دس سال کے ہو چکے تھے، انہوں نے بھی ban لگا دیا، یہ ban لگتے لگتے وہ بچے اب 30، 35 سال کے ہو گئے ہیں۔ یہ اتنی چوری چکاری کیوں ہوتی ہے؟ ظاہر ہے جو بچہ اس وقت پانچ سال کا تھا ان کے ban پر ban لگانے سے آج وہ 35 سال کا ہو چکا ہے، گورنمنٹ کی نوکری کی حد ہے 25 سال، اب اس بچے کا کیا قصور ہے کہ جو اس وقت 35 سال کا ہو چکا ہے اور وہ نوکری نہ ہونے کی وجہ سے دربدر پھر رہا ہے اور اس کی تعلیم M.A, double M.A. ہے،

جب روزگار نہیں ہو گا تو وہ پھر ڈاکہ ہی ڈالے گا' اپنا پیٹ پالنے کے لئے' والدین اور بچوں کا پیٹ پالنے کے لئے کچھ تو کرنا پڑتا ہے۔ اس پر کسی نے توجہ نہیں دی۔ میں نے یہ تجویز پہلے بھی دی مگر وہ تجویز سینیٹ سے ہی غائب ہو گئی۔ آپ یقین کریں۔ پتا نہیں کیا بات ہے کہ اگر ہم بولتے ہیں تو ہماری آواز اخباروں میں نہیں آتی ۔ اگر ہم یہاں غریب عوام کے لئے آواز اٹھاتے ہیں تو بھی کچھ نہیں ہوتا ۔ آپ دیکھیں ہمارے جتنے بھی سینیٹرز نے تجاویز دیں ' سب بیٹھے ہوئے تھے 'ٹی وی نے تھوڑی سی کوریج دی کہ جناب فلاں نے یہ کہا ' فلاں نے ایسے کہا ' فلاں نے ایسے اور اس کے بعد قومی اسمبلی میں سب کو باقاعدہ کوریج دی ۔ ہمارے ایک سینیٹر کو ' وہ اور ہم ایک ہیں ' ٹھیک ہے اپنی پارٹی الگ ہے ' ان کی پارٹی ان کے لئے اور ہماری ہمارے لئے مگر ہیں تو سینیٹر ۔ ہم جو بھی بولتے ہیں عوام کے لئے بولتے ہیں۔ قومی اسمبلی کے ایک ایک ایم این اے کو باقاعدہ نام لے لے کر کوریج دی ۔ ہماری جتنی بھی تجویزیں تھیں' ایک تجویز بھی نہیں آئی ۔ آپ یقین کریں لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ کیا آپ سینیٹ والے یتیم ہیں۔ آپ کا کوئی والی وارث نہیں ہے ؟ میں نے کہا میں کیا کر سکتی ہوں' میں انفارمیشن میں تو نہیں ہوں ۔ میں آپ ہی کی طرح ایک سینیٹر ہوں۔

جناب والا! خدا کے لئے آپ توجہ دیں کہ ہمارے جتنے بھی سینیٹر بولتے ہیں یا ان کی تجاویز ہیں تو ان کو آنا چاہیے ۔ ان کے حلقے کے لوگوں کو پتا چلنا چاہیے کہ ہمارے لوگوں نے ہمارے لئے کیا کہا ۔ صرف یہ نہیں کہ فلاں نے تقریر کی ہے ۔ فلاں فلاں نے یہ کہا ' جناب! سارے بیٹھے ہیں ۔

جناب ! میں نے دو سال پہلے بھی آپ سے یہ بات کہی تھی کہ آپ ذرا اس پر توجہ دیں ۔ ہمیں یہ مردے کی طرح دکھاتے ہیں ۔ سارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سینیٹ کی کارروائی دکھاتے ہیں تو اس طرح کہ کوئی بندہ کھڑا ہی نہیں ہے ۔ دیکھیں جناب! یہ زیادتی ہے ۔ کل جب ہم اپنے حلقے میں جائیں گے تو سارے لوگ کہیں گے کہ آپ لوگ تو صرف ائرکنڈیشنر میں بیٹھنے کے لئے جاتے ہیں ۔ دوبارہ ہمارے پاس کس لئے ووٹ لینے آگئے ہو ۔ بیٹھے ہوئے بھی یہ ایسے دکھاتے ہیں جیسے سارے مردے ہیں۔ دیکھیں جناب ! زیادتی ہے ۔یہ بات دو سال پہلے بھی

آپ سے کہی تھی۔

جناب چیئرمین ! آپ ذرا توجہ دیں ، تیزی دکھائیں ۔ کیونکہ اگر ان کو کچھ نہیں کہیں گے تو یہ پھر آج ہمیں مردوں کی طرح دکھا دیں گے ۔ بجٹ کا فائدہ کیا ہوگا؟ نہ آپ کی کوریج اخبار اور نہ ٹی وی میں ہوتی ہے ۔ ہم چھ دن سے بول ، بول کر صبح سے شام تک تھک ہار گئے ہیں ۔ دیکھیں! میرے سینیٹرز اتنی محنت کرتے ہیں ۔ اتنی بڑی بڑی کتابیں رات کو پڑھ کر تیاری کرتے ہیں۔بچوں سے دور ، بیویوں سے دور ، شوہروں سے دور ، ہم اس لئے بیٹھے ہیں کہ قوم اور ملک کے لئے کچھ کریں مگر اس کا اثر یہاں کیا ہوتا ہے؟ بول ، بول کر تھک جاتے ہیں ---

جناب چیئرمین، وسیم سجاد صاحب سن رہے ہیں اور یہ ضرور take up کریں گے ۔

سینیٹر آغا پری گل، نہیں ۔ آپ کے وزیر بھی نہیں ہیں ۔

جناب چیئرمین، طارق عظیم صاحب بھی سن رہے ہیں ۔

سینیٹر آغا پری گل، نہیں ، آپ کے وزراء بھی نہیں ہیں ۔ کون ہماری سنے گا؟

جناب چیئرمین، طارق عظیم صاحب، شیر افگن نیازی صاحب اور وسیم سجاد صاحب ہیں ۔ وسیم سجاد صاحب convey کریں گے ۔

سینیٹر آغا پری گل ،جناب چیئرمین! میں نے پاکستانی غریبوں کے لئے کالونیز کا کہا ۔دوسری بات age relaxation کی ہے ، پلیز اس پر زیادہ توجہ دیں ۔ باقی بلوچستان کے بارے میں جو کچھ کہا ----- ایک اور بات میں بتانا چاہتی ہوں کیونکہ میرے دوستوں نے بجٹ کے بارے میں بہت کچھ کہا اور میرے سارے پوائنٹس وہی تھے ---------

جناب چیئرمین،وقت کا خیال رکھیے ۔

سینیٹر آغا پری گل، بالکل خیال رکھوں گی۔ جناب ! اس فلور پر میں ایک اور بات بھی بتانا چاہتی ہوں کہ ہمارے بلوچستان کے ۲۰ ، ۲۲ گریڈ کے لوگ ساری زندگی تباہ کر کے یہاں اسلام آباد پہنچتے ہیں اور جب ان کی ترقی کی باری آتی ہے تو وہ او ایس ڈی بنا دیے جاتے

ہیں۔ اس وقت ہمارے تین چار ایسے بندے ۲۲ گریڈ کے ہیں جو واپس بھیج دیے او ایس ڈی بنا کر۔ میں نے یہ پہلے بھی آپ سے کہا تھا۔ آپ نے تھوڑا بہت پوچھا لیکن کچھ نہیں ہوا۔ پھر وہ او ایس ڈی بن گئے۔

جناب چیئرمین! میں اپنی خواتین کو بہت زیادہ appreciate کرتی ہوں۔ انہوں نے بہت زیادہ بجٹ میں حصہ لیا اور میں ان کو مبارکباد دیتی ہوں اپنے سینیٹرز کے سامنے۔ اور اگر میں رضا ربانی کے لئے کچھ نہ کہوں تو بہت بڑی غلطی ہوگی۔ مجھے بڑا دکھ ہو گا۔ کیونکہ اپوزیشن ہوتی ہے، ہوتی ہے بالکل ہوتی ہے، ہونی چاہیے، اپوزیشن کے بغیر تو مزہ ہی نہیں ہے مگر میں رضا ربانی کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ انہوں نے پورے بجٹ میں بہت ہی اچھے طریقے سے تعاون کیا۔ بہت اچھے طریقے سے اس بجٹ کو آگے چلایا۔ ٹھیک ہے، ہوتا ہے، تھوڑا بہت کچھ لوگوں کے problems ہوتے ہیں۔ بچے روتے ہیں، اپنے ماں باپ کے سامنے روتے ہیں، آپ کے سامنے نہیں روئیں گے تو کس کے سامنے روئیں گے؟ مگر میں بہت ہی appreciateرضا ربانی صاحب کو کرتی ہوں اور یہ سارا credit انہی کو جاتا ہے۔ انہوں نے ہمارے بجٹ کو بہت اچھا چلایا۔ اپنے دوستوں کو بھی سمجھایا اور یہی کہا کہ یہ پاکستان کا بجٹ ہے۔ جناب اسحاق ڈار صاحب نے بھی بہت زبردست تقریریں کیں اور غصے میں بھی آیا، چیخا بھی بہت زیادہ، تھوڑا سا برا بھلا بھی کہا، اچھا بھی کہا، میں ان کو بھی بہت زیادہ خراج تحسین پیش کرتی ہوں۔ اپنے رضا محمد رضا کو آپ دیکھیں کہ کتنا پیارا انسان ہے حالانکہ لوگوں نے کتنا کچھ کہا، ٹھیک ہے اس کا حق بنتا ہے۔ جناب چیئرمین! اس کے علاقے میں پانی تک نہیں ہے۔ ظاہر ہے وہ روئے گا نہیں، چیخے گا نہیں، مگر اس نے کبھی بھی کوئی غلط بات نہیں کی ہے۔ کبھی بھی اس نے پاکستان کے بارے میں غلط بات نہیں کہی۔ میں اپنے تمام مولانا صاحبان کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے بھی بہت اچھا رول ادا کیا اور ہمارے سینیٹ کو صحیح طریقے سے چلنے دیا۔

آخر میں آپ کی توجہ دلانا چاہتی ہوں جنرل پرویز مشرف کے بارے میں جو اس وقت صدر پاکستان ہیں۔ جناب چیئرمین! اس بندے کو appreciate کرنا چاہیے۔ اس کی جتنی بھی میں تعریف کروں وہ کم ہے۔ اس بندے نے پاکستان کے لئے وہ کیا ہے جو شاید آج سے

پہلے کسی نے بھی نہ کیا ہو۔ کیونکہ انہوں نے جو بھی وعدے کئے، جتنی بھی باتیں کیں وہ ساری پوری کیں۔ وہ ایک سچا انسان ہے' اس کی اچھائی کی بندے کو تعریف کرنی چاہیے ۔ اس سے پہلے جناب چیئرمین! ہم بھی اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے تھے۔ مگر ہمیں کوئی بھی فنڈ نہیں دیا گیا۔ اس دور میں اپوزیشن کو ترقیاتی سکیموں کے لئے پورے فنڈز مل رہے ہیں۔ جتنا ہمارا فنڈ ہے اتنا ہی اپوزیشن والوں کا فنڈ ہے۔ جناب چیئرمین! جب delegationباہر جاتے تھے آپ یقین کریں ہمیں نصیب ہی نہیں ہوتا تھا کہ ہم ان کی طرف دیکھیں بھی۔ کسی ایک delegationمیں بھی ہمارا نام نہیں ہوتا تھا کیونکہ لڑائی اتنی تیز ہوتی تھی' اتنی زبردست لڑائی تھی کہ کسی کا ship سمندر میں روکا ہوا ہے' کسی کا کیا problemہے۔ ان problems میں انہوں نے ہمارے پندرہ سال' بیس سال ایسے برباد کئے' اس طرح برباد کئے' خدا کی قسم میں کیا بتاؤں' میں خود بھی ایم پی اے تھی ' میں نے ان کی لڑائیوں میں اپنے حلقے میں کچھ کام نہیں کیا۔ اب دیکھیں کہ اس وقت صدر جنرل پرویز مشرف' ہم کہتے ہیں کہ جنرل برا ہے' فلاں ہے' فلاں ہے' آفرین ہے اس کے صبر پر ورنہ خدا کی قسم اتنا ہم چیختے' اتنا بولتے تو پتا نہیں کیا ہوتا۔ اس زمانے میں ایک دن بھی اگر آپ کچھ بولتے تو ساری رات آپ کے گھر پر چھاپے مارے جاتے تھے۔ پولیس آتی تھی' عورتوں کو گھسیٹ کر لے کر جاتے تھے۔ میں گواہ ہوں' یہ میرے ابھی تک ٹانکے لگے ہوئے ہیں۔ مار کٹائی کرتے تھے کہ جی آپ نواز شریف گروپ کے ہیں۔ اگر ان کا دور آتا تو وہ گھسیٹ کر لے جاتے تھے کہ آپ بے نظیر گروپ کے ہیں۔ کیا تھا؟ کیا تھا اس زمانے میں؛ ابھی ہم کہتے ہیں کہ اس وقت حکومت یہ کر رہی ہے وہ کر رہی ہے' بہت غلط ہم بول رہے ہیں۔ ہمیں غلط نہیں بولنا چاہیے۔ ہمیں اللہ کو جان دینی ہے' سچ بولنا چاہیے۔ مگر اس بندے کو میں appreciate کرتی ہوں کہ ہم نے جتنا دو سال میں سینیٹ میں اس کو برا بھلا کہا ہے آفرین ہے اس کے صبر کو' یعنی اگر وہی پرانا دور ہوتا تو پتا نہیں خون خشک ہوتا' پتا نہیں کتنے گھروں پر چھاپے ہوتے۔ میں اپنے بھائیوں سے اب بھی درخواست کرتی ہوں کہ سینیٹ کے پانچ چھ آٹھ مہینے رہ گئے ہیں اب بھی ہمیں چاہیے کہ ہم صرف اپنے ملک و قوم کے لئے سوچیں۔

جناب چیئرمین، ابھی تقریر ختم کریں اور دوسروں کو موقع دیں۔

سینیٹر آغا پری گل ، بس ایک منٹ، ہمیں صرف پاکستان کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اب یہ چھوڑیں کہ جی مشرف نے یہ کیا۔ مشرف اگر اس طرح کرتا تو پتا نہیں کتنے لوگ اندر ہوتے۔ آخر میں، میں اپنے پاکستان کے لئے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے پاکستان کو سلامت رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بارڈروں پر امن و امان رکھے۔ اسی طرح ہماری دوستی صحیح رہے۔ ہمارے کشمیریوں کا مسئلہ اللہ تعالیٰ حل کرے۔ آخر میں، میں ایک دفعہ پرزور کہوں گی، اپنے پاکستان کے بارے میں، بجٹ کے بارے میں، پاکستان زندہ باد۔ پرویز مشرف زندہ باد۔ وزیراعظم زندہ باد۔ وزیر مملکت زندہ باد۔

جناب چیئرمین: جناب محمد عباس کمیلی۔

سینیٹر آغا پری گل، جناب چیئرمین! چونکہ میں فنانس کمیٹی کی ممبر بھی ہوں اس لئے اپنے تمام فنانس کمیٹی کے ممبران کا شکریہ ادا کرتی ہوں، خاص طور پر احمد علی صاحب کا، بھنڈر صاحب کا اور جو میرے اپوزیشن کے بھائی تھے انہوں نے فنانس میں اتنا اچھا رول ادا کیا، جتنے بھی ہمارے مسئلے مسائل تھے ایک چیز پر انہوں نے اعتراض نہیں کیا۔ میں احمد علی کی پوری ٹیم کو ـــــــ

جناب چیئرمین، احمد علی صاحب کھڑے ہو کر داد لیں۔

سینیٹر آغا پری گل ، اور جو میرے اپوزیشن والے فنانس کے ممبران ہیں کیونکہ sorry, very sorry میں نے بہت بڑی غلطی کی، میں ذرا جذبات میں آگئی تھی۔ مگر یہ ہے کہ ہماری اپوزیشن والوں نے فنانس میں بہت اچھا رول ادا کیا، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ انہوں نے جتنی بھی پاکستانی عوام کی فلاح و بہبود کے لئے تجاویز تھیں سب انہوں نے پاس کروائیں۔ کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور چھ آٹھ مہینے اور بھی ان کو ایسا پیارا موقع دے تاکہ یہ اسی طرح رہیں۔ میں شیر افگن کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں۔ سینیٹ اور قومی اسمبلی میں ان کا زبردست رول ہے۔ دونوں جگہ۔ وہ یہاں پر بھی بھاگتے ہیں، وہاں پر بھی

بھاگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے اور ان کا غصہ ذرا کم کرے۔ یہ غصے میں جلدی آتے ہیں، محنتی آدمی ہیں۔ بہت ہی اچھا رول ادا کرتے ہیں۔ فاٹا کے بارے میں ,sorry فاٹا کے بارے میں تو میں بھول ہی گئی تھی۔ جناب چیئرمین! ہم فاٹا کے لوگوں کے بھی مشکور ہیں کیونکہ انہوں نے بھی پاکستان کے لئے جو جدوجہد کی ہے، سینیٹ اور قومی اسمبلی کے لئے، میں دعا کرتی ہوں اور طارق عظیم صاحب کا بھی، انیسہ زیب کا بھی کہ آج کی جو coverage ہوگی، انیسہ مردے نظر نہ آئیں، زندے نظر آئیں تاکہ ہمیں صحیح طریقے سے coverage ملے۔

جناب چیئرمین: شکریہ۔ لیاقت صاحب! ذرا مختصر رکھیے گا۔

سینیٹر لیاقت علی بنگزئی: جیسے کہ ہماری بہن محترمہ پری گل آغا فرما رہی تھیں، ہمیں اس معاملے کو ذرا سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ واقعی سینیٹ کے اجلاس کو پی ٹی وی میں کوئی coverage نہیں دی جا رہی۔ اس وقت وزیر مملکت برائے براڈکاسٹنگ تشریف رکھتی ہیں۔ وہ اس بات کو نوٹ کرلیں۔ میں نے بحیثیت سٹینڈنگ کمیٹی کے ممبر کے کئی دفعہ ان سے رابطہ کیا ہے لیکن وہاں سے ہمیں ہمیشہ نفی میں جواب ملتا ہے۔ مجھے یہ بات اس ایوان میں آپ کے توسط سے شیخ رشید صاحب، جو کم و بیش پچھلے پورے سیشن میں غائب رہے، تک پہنچانی ہے۔ جیسے کہ محترمہ پری گل آغا صاحبہ سو فیصد درست فرما رہی ہیں کہ وہ اس حالت میں دکھاتے ہیں جیسے سینیٹ میں کوئی زندہ متحرک شخصیت ہے ہی نہیں۔ آج as a test case ہم اس کو دیکھیں گے کہ نو بجے کے خبر نامے میں ان کی کیا کارکردگی ہوگی۔ میں وزیر صاحبہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس بارے میں احکامات جاری کر دیں۔ شکریہ۔

جناب چیئرمین: جناب محمد عباس کمیلی۔

سینیٹر محمد عباس کمیلی: بسم اللہ الرحمٰن الرحیم۔ جناب چیئرمین! آپ کا شکریہ کہ آپ نے بالآخر مجھے floor دیا۔

جناب چیئرمین: نہیں، کل بھی آپ کو یاد کیا تھا آپ جا چکے تھے۔

سینیٹر محمد عباس کمیلی: بہرحال دیر آید، درست آید۔ بجٹ کو کسی نے عوام

دوست کہا، کسی نے کہا امیروں کے لئے بجٹ بنا ہے ۔ باتیں دونوں کچھ کچھ سچ نظر آتی ہیں ۔ امراء کا بجٹ شاید اس لیے کہا گیا کہ پہلے تو بائیس خاندان تھے پھر بائیس سو ہو گئے اور آج شاید بائیس ہزار ہیں ۔ ہیرو کلچر عام ہے ۔ غریب کے لئے جینا دوبھر ہے ۔ ہمارے بعض دوستوں نے اسے عوام دوست بجٹ کہا کیونکہ کچھ ریلیف ملے ہیں ، کچھ تنخواہیں بڑھی ہیں ۔ لیکن پوچھنا یہ ہے کہ تنخواہیں کتنی بڑھی ہیں اور مہنگائی کتنی بڑھی ہے ؟ تناسب کیا ہے ؟ گزشتہ تین برسوں میں مہنگائی کس شرح سے بڑھی ہے اور تنخواہیں کس شرح سے بڑھی ہیں ؟ کیا تنخواہیں اسی شرح سے بڑھی ہیں جس شرح سے مہنگائی بڑھی ہے ؟ تنخواہ کو اسی شرح سے بڑھنا چاہیے اور پھر سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھی ہیں تو کتنی ؟ اڑھائی ہزار سے تین ہزار ۔ اسے اگر دس ہزار بھی کیا جائے تو کم ہے ۔ لیکن اس کو کم از کم پانچ ہزار تو ہونا چاہیے ۔ غیرسرکاری ملازمین جو پرائیویٹ اداروں میں ہیں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا ۔ وہ بے چارے کیا کریں کہاں جائیں ؟ بجٹ کو دراصل حقیقت میں وطن دوست بجٹ ہونا چاہیے ۔ وطن کی ضروریات کو پیش نظر رکھ کر بجٹ بنایا جائے اور اگر ایسا کیا جائے تو یقیناً یہ ملک کی خدمت ہوگی ۔ یقیناً اس بجٹ میں فاصلے بڑھے ہیں امیر طبقے میں اور غریب طبقے میں۔ امیر ، امیر سے امیر تر ہوجائے گا اور غریب ، غریب تر ۔ خودکشیاں بڑھیں گی ، ان فاصلوں کو کم کیا جائے ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ملک میں وہ سب کچھ ہونے لگے جو نہیں ہونا چاہیے ۔ اگر لوگ بھوکے رہیں گے ، تن پر کپڑا نہیں ہوگا ، سر پر چھت نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ جو کچھ ہوگا اس کا آپ اور ہم تصور نہیں کرسکتے ۔

جناب والا! غریب کو کیا مل رہا ہے ؟ یہ ایک زرعی ملک ہے تو کسان کو کیا مل رہا ہے ؟ کیا کسان کو پیٹ بھر کر روٹی مل رہی ہے ؟ متوسط طبقے کو کیا مل رہا ہے ؟ متوسط طبقے کو کچل کر رکھ دیا گیا ہے ۔ مجھے کہنے دیجیے کہ متوسط طبقہ ہی ملک کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے ۔ متوسط طبقہ ہی ٹیکس ادا کرتا ہے ۔ بڑے بڑے سرمایہ دار ٹیکس ادا نہیں کرتے وہ تو ٹیکس چوری کرتے ہیں ۔ جناب ! میں صحیح بات کررہا ہوں مجھے بھی بہت کچھ علم ہے یہ طبقہ Tax holidays کو enjoy کرتا ہے ۔ Tax holidays کی facilities کیسے ملتی ہیں جب کہ Tax holidays کی facilities متوسط طبقے کو ملنی چاہییں جو دن رات محنت کرتا ہے ۔ متوسط طبقے کو آسانی سے

بھی loans نہیں ملتے ۔ بڑے بڑے لوگوں کو قرضے مل جاتے ہیں ۔ متوسط طبقے کو صنعتی زمینیں دی جائیں تاکہ وہ نئی نئی صنعتیں قائم کریں ۔ Middle class کو encourage کیا جائے ۔ہندوستان میں کس طرح سے حالات بدلے ہیں۔ اور پھر اس میں sales tax بھی ہے ۔ ان صنعتوں سے بھی sales tax وصول کیا جاتا ہے جن پر sales tax عائد نہیں ہوتا جیسے کھانے پینے کی اشیاء ہیں، sales tax exempted ہیں ، ان سے بھی sales tax وصول کیا جاتا ہے ۔

پھر بجلی کے شعبے میں fixed charges لیے جا رہے ہیں، minimum charges لیے جاتے ہیں جو قانون کے مطابق اس صورت میں لیے جاتے ہیں جب uninterrupted supply ملے لیکن یہاں load shedding سال کے اکثر مہینوں میں ہوتی ہے لیکن پھر بھی load shedding charges وصول کیے جاتے ہیں جو کہ غیرقانونی اور غیر منصفانہ بھی ہیں۔ ہم التجا کریں گے کہ load shedding کے period میں یہ charges کم کیے جائیں یا ختم کیے جائیں یا اس شرح سے لیے جائیں جس شرح سے بجلی منقطع رہی ہو۔

Sales tax صوبوں کا حق ہے، تمام مغربی اور ترقی یافتہ ممالک میں صوبوں کو sales tax دیا جاتا ہے تو اس کو خاص طور پر پیش نظر رکھا جائے ۔ صوبوں کے درمیان بھی انصاف ہونا چاہیے۔

یہاں NFC Award کے حوالے سے بھی بہت کچھ کہا گیا ہے۔ صوبوں کے مسائل بھی پیش کیے گئے۔ بلوچستان کے حوالے سے بھی بہت کچھ کہا گیا، بلوچستان کے دوستوں کے بھی گلے شکوے بجا ہیں لیکن اب سندھ کی بات بھی ضروری ہے کیونکہ سندھ کے ساتھ بھی تو ناانصافی ہو رہی ہے ۔ سندھ اور سندھ میں بالخصوص کراچی سب سے زیادہ revenue دیتا ہے ۔ Karachi revenue 70% سے ملتا ہے لیکن کراچی کو کیا مل رہا ہے؟ جو revenue جو صوبہ جس قدر دیتا ہے اسی بنیاد پر اسے وسائل ملنے چاہییں ۔ یہی عین انصاف ہے اور NFC Award کا اعلان بھی اسی بنیاد پر ہونا چاہیے اور یہی عین انصاف ہوگا۔ صوبوں کے درمیان بھی انصاف ہونا چاہیے۔ تمام عوام کو انصاف ملنا چاہیے ۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ متوسط طبقے کی بات ہو رہی

تھی، کاروں پر duties کم کی گئیں، کس کے لیے آپ نے duties کم کیں، امراء کے لیے، غریبوں کے لیے آج ایک آٹھ سو سی سی اور ہزار سی سی کی کار necessity بن چکی ہے ان پر duties کم نہیں ہوئیں ۔ Second hand car کی import, reconditioned car کی import allowنہیں ہے، وہ اگر allow ہو جائے تو سستی گاڑیاں ملیں گی ۔ اس کے علاوہ ہمارا دوست ملک چین 80000 روپے میں کار دینے کو تیار ہے لیکن WTO کے تحت دو سال کے لیے exemption لے لی گئی ہے breathing space دینے کے لیے، کیا یہی انصاف ہے؟ اگر 80000 روپے کی گاڑی ملک میں آ جاتی تو عوام کی ضروریات پوری نہیں ہوسکتی تھیں لیکن یہ کیا ہو رہا ہے؟ Breathing space کی کسے ضرورت ہے غریب عوام کو یا کار manufacturer کو، عوام کو تو کچلا جا رہا ہے۔ ہم یہ suggest کریں گے کہ عوام کے ساتھ ہمدردی اور انصاف کیا جائے۔ تعلیم کی مد میں کچھ اضافہ کیا جائے اور اب تو خزانہ بھرتا چلا جا رہا ہے۔ آپ مغرب کی تقلید کر رہے ہیں تو پھر صحیح معنوں میں اب welfare state بھی تو بنائیں۔ ان معاملات میں بھی مغرب کی پیروی کی جائے۔ Social security کا نظام نافذ کیا جائے اور کم از کم کچھ نہیں تو پڑھے لکھے graduates بے روزگاروں کو تو بے روزگاری allowance دیا جائے۔ بیواؤں کی تو مدد کی جائے۔ معذروں کی مدد اور دیکھ بھال کی جائے، یہ سب کچھ نہیں ہو رہا۔ خزانہ بھرتا چلا جا رہا ہے لیکن یہ جو معاشی استحکام حاصل ہو رہا ہے اس کا فائدہ عوام کو trickle down نہیں ہو رہا ہے۔اسے trickle down ہونا چاہیے تاکہ ہر صوبے کے عوام خوشحال ہوں۔

جناب! law and order situation سب سے important factor ہے اس پر کیا توجہ دی جا رہی ہے۔ آج اس ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ اس شہر میں کیا ہوا؟ اب تک خاموشی ہے۔ جناب والا! میں آپ سے مل چکا ہوں۔ اکیس شہادتوں کی figures سامنے آئی ہیں لیکن حقائق کچھ اور ہیں۔ اس سے بہت زیادہ ہیں۔ اس اسلام آباد میں security کا یہ عالم ہے، رات تک تو security ہو اور صبح ہٹا لی جائے، کیوں؟ کس سازش کے تحت؟ صبح اس وقت security کہاں تھی؟ ایک important event تھا۔ چار پانچ روز سے وہاں تقریبات ہو رہی تھیں۔ آخری دن security ہٹا لی گئی اور پھر اس کے بعد جناب چیئرمین! جو کچھ ہوا وہ بہت ہی افسوسناک ہے۔

راتوں رات لاشیں بھجوا دی گئیں۔ اجتماعی نماز جنازہ بھی نہیں ہونے دی گئی۔ سوئم بھی شہداء کا نہیں ہونے دیا گیا اور آج بھی ایک شہید کو ملزم قرار دیا جا رہا ہے جو وہاں شرکت کے لیے آیا تھا جس کے گھر میں visit کر چکا ہوں۔ کیا دہشت گردی کا خاتمہ اسی طرح سے ہو گا؟

وزیر اعظم معاوضے کا اعلان کرتے ہیں تو ایک لاکھ روپیہ معاوضہ۔ کتنے double standards ہیں اس ملک میں کہ بلوچستان میں کوئی واقعہ ہو تو پانچ لاکھ اور آٹھ لاکھ، پنجاب میں ہو تو آٹھ لاکھ، وزیر اعظم کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے تو اس کے لیے دس لاکھ اور نہیں معلوم کیا کیا مراعات، یہی حالت صدر کی حفاظت کرنے والوں کے لیے لیکن جو ایک مقدس مقام پر شہید ہو جائیں ان کے لیے صرف ایک لاکھ۔ گزشتہ دنوں کراچی میں بھی تین لاکھ کا اعلان ہوا جو وہاں واقعات پیش آئے تو پورے ملک کے لیے ایک standard ہونا چاہیے۔ زخمیوں کی دیکھ بھال بھی صحیح نہیں ہو رہی تھی، میں نے آپ سے گفتگو کی، بڑی مشکل سے مسائل حل ہوئے۔ ہسپتال میں جو کچھ ہوا اس کی روداد بڑی تلخ ہے لیکن حکومت کی law and order پر کیوں نہیں توجہ۔ حکومت کا تو اولین agenda یہی تھا کہ دہشت گردی کا خاتمہ کیا جائے گا، terrorism کا خاتمہ کیا جائے گا .war against terrorism دہشت گردی تو ابھی کچھ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس کا کہیں خاتمہ نظر نہیں آ رہا۔

اب جب کہ ہندوستان سے بھی تعلقات بہتر ہو رہے ہیں تو defence پر بجائے اخراجات کم کرنے کے اگر internal security کی طرف توجہ دی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک معاملات سدھر سکتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے بہت وقت دیا۔

Mr. Chairman: Wasim Sahib, should we continue now or you want to break for *Asar* prayers and then reconvene.

سینیٹر وسیم سجاد، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ میرے خیال میں آج کی list کے مطابق اب یہاں سے کوئی speaker باقی نہیں ہے لیکن جو رپورٹ lay ہونی ہے غالباً اس پر کچھ وقت لگ رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اگر مختصر مدت کے لئے adjourn کر دیا جائے اور پھر

دوبارہ مل کر رپورٹ present ہو جائے۔

جناب چیئرمین، ٹھیک ہے۔ جی دادا بھائی صاحب۔

سینیٹر محمد امین دادا بھائی، جناب چیئرمین! کمیلی صاحب میرے بڑے ہیں اور میرے لئے محترم ہیں۔ سرمایہ داروں کے لئے جو language use کی گئی ہے I would like کہ آپ اس کو expunge کرلیں۔

جناب چیئرمین، دیکھیں اس نے کوئی personal reference نہیں دیا۔

سینیٹر محمد امین دادا بھائی، نہیں جناب! ایک بات جو کہی گئی ہے کہ they don't pay taxes. The tax is being generated through the industries. جس سے Federal and provincial governments چلتی ہیں۔ پہلے اس مسئلے کو سمجھا جائے پھر بیان دیا جائے۔

جناب چیئرمین، میمن صاحب! آپ نے کچھ کہنا ہے۔ میرا خیال ہے کوئی بولنے والا نہیں۔

I think, now we adjourn for the *Asar* prayers and reconvene *Inshaallah* at 6.00 p.m.

....

[The House was then adjourned for Asar prayers]

....

(نماز عصر کے بعد اجلاس کی کارروائی زیر صدارت جناب چیئرمین محمد میاں سومرو شروع ہوئی)

Mr. Chairman: We have more speeches. Mr. Ahmad Ali will lay the report. Mr. Ahmad Ali please move the motion.

Senator Ahmad Ali: I beg to present the report of the Committee on the proposals which were made in recommendations to the

Finance Bill, 2005 and Annual Budget Statement referred to it by the House on 8th June, 2005.

Mr. Chairman: The report stands presented.

سینیٹر احمد علی، جناب! مجھے موقع دیں کہ میں اپنے ان ساتھیوں کا شکریہ ادا کروں جنہوں نے اس میں بہت محنت اور بڑی لگن کے ساتھ کام کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ٹائم بہت کم ہوتا ہے لیکن صبح کے آٹھ بجے سے رات نو بجے تک اور آخری دن تو رات ڈیڑھ بجے تک کام کیا گیا تب یہ report اس position کو پہنچی۔ غلطیاں تھیں، corrections تھیں۔ میں ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ بڑی محنت اور بڑی cooperation اور بڑی لگن کے ساتھ کام کیا۔ Majority کے ساتھ تو consensus ہے ہمارا مگر ٹھیک ہے democracy میں کچھ ایسے مواقع بھی آتے ہیں جہاں difference of opinion بھی ہوتا ہے لیکن میں پھر شکریہ ادا کرتا ہوں سب ساتھیوں کا کہ انہوں نے تعاون کیا۔

Mr. Chairman: We should record our appreciation for the members.

وسیم صاحب! رپورٹ کے لیے ٹائم چاہیے یا ---

سینیٹر وسیم سجاد، مشورہ کرلیں جو agreed ہیں وہ----

سینیٹر احمد علی، جناب! پڑھنے میں ٹائم لگے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ سب لوگ پڑھ لیں اس کو۔

سینیٹر وسیم سجاد، جناب والا! ایک تجویز ہے اس میں، ایک تو میں آپ کی وساطت سے چیئرمین جناب احمد علی صاحب اور ان کی کمیٹی کے ممبران کا نہ صرف شکریہ ادا کرتا ہوں بلکہ ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے بہت مختصر وقت میں بہت عمدہ ریکارڈ اس ہاؤس کے سامنے پیش کیا ہے اور مجھے پتا ہے اس رپورٹ کے بننے میں اور بنانے میں کتنا وقت درکار تھا اور کتنی محنت اس میں کی گئی۔ اس میں بہت محنت اور کاوش سے کام کیا گیا۔ اس میں ہر ممبر نے بہت زیادہ input دی ہے اور آپ دیکھیں گے کہ اس میں قانونی مسائل کے

علاوہ بہت سی ایسی چیزیں، بجٹ کی کتاب بہت موٹی تھی جس کو دیکھ کر اس کا نچوڑ انہوں نے سامنے پیش کر دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ تمام تجاویز بہت اہم، بہت سود مند ہیں اور ہم امید رکھتے ہیں کہ اس پر قومی اسمبلی میں بھی اسی جذبے اور spirit سے غور کیا جائے گا جس جذبے اور جس نیت سے یہاں سے پیش کی گئی ہیں۔

دوسری تجویز یہ تھی اور میرے خیال میں جو میرے فاضل دوست ہیں دوسری جانب وہ اس سے اتفاق کریں گے کہ اس میں دوقسم کی تجاویز ہیں۔ ایک وہ ہیں جن پر مکمل اتفاق ہے یعنی ایوان کی دونوں جانب کے ممبران کا اتفاق ہے اور وہ ایک agreed list ہے، وہ اٹھاون ہیں تو میرا خیال ہے ان کو ہم پاس کردیں بقیہ جن پر اختلاف رائے ہے ان پر پرسوں بحث ہو جائے گی اور پھر جو بھی ہاؤس فیصلہ کرے گا۔

Senator Muhammad Ishaq Dar: There are some recommendations, Mr. Chairman. They are only 9 ministries' expenditure items, they are being submitted because original arrangement was that the whole process would be done on Monday. It may not be possible because on the 9 Divisions our cut motions that will take place, I think these are speeches and all these things, so, I think they will have a very safe day to complete all that, entire job because

اس پر voting بھی ہو گی تو میری گزارش یہ ہے کہ

if you feel proper, I think these can be taken now one by one and voted and approved.

جناب چیئرمین، جی رضا صاحب، ایک منٹ رضا کو سن لیں ذرا۔ وہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں۔

Senator Mian Raza Rabbani: Mr. Chairman, first of all let me

Finance and particularly the Chairman of the Finance Committee for having kept such a congenial atmosphere of what I have been told during the proceedings of the Committee and I would also at this stage like to state that the proposals that were given by the MMA and the Democratic Alliance which particularly delt with the monitary implications of the Budget and a number of them if not a majority of them have been accepted by the Committee and form a part and parcel of the overall consensus recommendations that are before us. For this I would like to thank in particular the Members of the Treasury Benches who were in the Committee that they kept party interests above and looked at what was in the general welfare and well being of the common Pakistani. And I think, if we go through these recommendations, we would find that the Senate has made a very positive contribution in making the Budget a more people oriented Budget but of course it is now for the National Assembly whether it accepts or rejects these recommendations of the Senate. I just hope that not like the first year when the recommendations were sent and lock stock and barrel all of them were rejected. The National Assembly will apply its mind and will give due consideration to the recommendations which have come from the Senate and while doing that it must bear in mind that the Senate of Pakistan represents the Federation of Pakistan and that the recommendations that flow unanimously from this House carry the entire weight of all the federating units and I hope that the Assembly would give due importance and would take up the discussion

theAssembly would give due importance and would take up the discussion on these recommendations recommendation by recommendation rather than putting them into one basket and dismissing them summarily. As far as the proposal is concerned of taking up or passing the recommendationsright now, I think, there is a consensus of all present in the House and therefore, we can go ahead with that proposal. And then the other nine Ministries on which the joint Opposition has given collective motions, they can be taken up or minority recommendations, they can be taken up on Monday and we can go through that on Monday, sir.

Mr. Chairman: I would also like to complement the Standing Committee, its Chairman and support staff from the Senate Secretariat and all the members who gave recommendations and suggestions. I think, this interest is very much appreciated and also the spirit with which joint effort has been made is also commendable. Ahmad Ali sahib, would you like to move or...

(interruption)

جناب چیئرمین: اسی پر۔

سینیٹر مہیم خان بلوچ: جی بالکل اسی پر۔ جہاں تک ہماری Treasury Benches کی جانب سے اور ARD اور MMA کی طرف سے جو recommendations ہیں، مجھے ان سے اختلاف رائے نہیں ہے لیکن چار پانچ دنوں کے دوران بجٹ کے سلسلے میں جو موقف سامنے آیا ہے، اس میں NFC سرفہرست رہا ہے۔ NFC کی وجہ سے اس وقت بلوچستان اور سرحد اپنے اس

ملیں گے ہم بجٹ نہیں بنا سکتے اور ہمارے بلوچستان کی گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ 24 یا 20 تاریخ تک تو ہم منتظر ہیں کہ مرکز کی طرف سے اس سلسلے میں ہماری کیا حوصلہ افزائی ہو گی تاکہ ہم اس کو سامنے رکھیں اور ہم بجٹ بنائیں۔ میں ان دوستوں سے یہ کہتا ہوں کہ NFC Award کے سلسلے میں جو recommendation ہے وہ آپ قومی اسمبلی کو نہیں بھیج رہے ہیں کیونکہ آئینی حوالے سے اس کے اختیارات صدر پاکستان کے پاس ہیں۔ لہذا اپنے دوستوں کو اور treasury کو یہ کہوں گا------

جناب چیئرمین، recommendation تو بھیج رہے ہیں۔

سینیٹر مہیم خان بلوچ، اس سلسلے میں اس کمی کو دور کرنے کے لئے انہوں نے کیا تجاویز ذہن میں رکھی ہیں تاکہ ان تجاویز کو آگے لے جائیں اور بلوچستان اور سرحد کی جو مشکلات ہیں وہ دور ہو جائیں۔

جناب چیئرمین، جی پروفیسر خورشید صاحب۔

سینیٹر پروفیسر خورشید احمد، جناب چیئرمین! میں بیحد ممنون ہوں کہ آپ نے اپنی observations میں کمیٹی کے صدر اور members کے علاوہ جو سٹاف نے ہمارے ساتھ کام کیا ہے اس کا ذکر کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے بہت محنت سے کام کیا ہے اور میں خصوصی طور پر درخواست کروں گا اس سلسلے میں آپ ان کو جو بھی compensation ہو سکے دیں، اس کا خیال رکھیں ۔ رہا معاملہ NFC Award کا تو ابھی آپ کے سامنے ساری بات آ رہی ہے اور اگر آپ پڑھ لیں تو 38 پر لکھا ہوا ہے کہ

"The Senate recommends to the National Assembly that provinces are suffering because of deadlock in respect of NFC Award, every effort should be made to announce an agreed award in accordance with the relevant Article of the Constitution before the budget is passed by the National Assembly."

جناب چیئرمین، جی شیر افگن صاحب۔

ڈاکٹر شیر افگن خان نیازی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب چیئرمین! اس کے حوالے سے Prime Minister صاحب سے کل بھی Chief Minister Sarhad ملے تھے، اس پر at lengthبات ہوئی ہے اور وہ کوشش میں ہیں کہ کسی طریقے سے as early as possible یہ مسئلہ طے ہو جائے بلکہ نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ چاروں Chief Ministers صدر صاحب کے پاس آئے تھے انہوں نے بیٹھ کر غور و خوض کیا اور جو reservations اور demands تھیں، یہ بات سمجھنے کی ہے it is a very important thing کہ جو جو چیز جس صوبے کو ضرورت تھی انہوں نے بلاجھجک صدر صاحب کو لکھ کر پیش کی ہیں اور پھر جب آخر میں فیصلہ ہوا تو چاروں صوبائی وزرائے اعلیٰ اس پر مطمئن تھے اور انہوں نے صدر صاحب کو کہا کہ آپ جو بھی فیصلہ کریں گے، ہمیں آپ پر اعتماد ہے اور انشاء اللہ وہ فیصلہ تمام صوبوں کے حق میں ہو گا، ہمیں قبول ہو گا۔ اس لئے یہ مسئلہ جلد حل ہونے والا ہے، اس میں اب کوئی قباحت باقی نہیں ہے۔

اس کے بارے میں سینیٹ نے بھی یہی recommendation دی ہے کہ as early as possible it should be carried out in the interest of the federating units.

اور یہ ساری کی ساری exercise ہو رہی ہے اور National Finance Commission کے حوالے سے divisible pool والی چیزیں طے ہو جائیں گی and requirements will be given which are required by the provinces and appropriate amount shall be transferred to them اور ان کی جو جو ضروریات ہیں انشاء اللہ ضرور پوری ہوں گی۔ اس میں اب دو رائے بھی نہیں رہی، یہ مسئلہ نیشنل اسمبلی میں بھی اٹھا تھا اور خود Chief Ministers اپنی powers صدر صاحب کو دے گئے ہیں۔ اس لئے جناب! اب یہ issue نہیں رہا۔

جناب چیئرمین، بہرحال کمیٹی کے جو views ہیں put in there. جی احمد علی صاحب۔

Do you want to move individually or collectively or what would be

appropriate?

سینیٹر احمد علی: جناب! 20 میں پڑھ لیتا ہوں باقی وسیم صاحب پڑھ لیتے ہیں۔

سینیٹر محمد اسحاق ڈار: اگر آپ مناسب سمجھیں، انہوں نے تو move کر دیا ہے

report has been laid, base on the report, there is a motion and you just put

everything بجائے ہم میں سے کوئی بھی پڑھے .you just move the item اور آپ ایک ایک کا فیصلہ کرتے جائیں۔

It is to save the time, either the Bhinder sahib or Wasim Sajjad sahib, put it to the vote. I think sir, it will take about an hour.

Mr. Chairman: Each item?

سینیٹر محمد اسحاق ڈار: نہیں، نہیں

total.Sir, simply read it and put to the vote.

جناب چیئرمین: میرا خیال ہے کہ بہتر ہو گا کہ آپ لوگ اگر باری باری divide کر کے پڑھ لیں .then I will just ask for vote یا میں یوں ہی پوچھ لوں گا۔

سینیٹر محمد اسحاق ڈار: چلیں جی ایسے کر لیں۔

Mr. Chairman: Please listen to Mr. Wasim Sajjad.

Senator Wasim Sajjad: Sir, I beg to move that recommendations at Serial No. 1 to No. 58 in the Report of the Standing Committee on Finance of the Senate may be approved by this House for sending them to the National Assembly of Pakistan in terms of Article 73 of the Constitution.

(The motion was carried)

Mr. Chairman: The motion is carried. Congratulations. I think we must also appreciate the efforts of Omer Ayub in the coordination and the response that he has been giving to the Committee.

سینیٹر احمد علی، جناب! ہمارے ساتھ سٹاف نے بہت زیادہ کام کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اس سلسلے میں کچھ نہ کچھ reward دینا چاہیے۔ میں honorarium کے لئے آپ سے request کرتا ہوں کہ آپ سارے Senate Staff کو دیں۔

جناب چیئرمین، کام کرنے والے کو encourage کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔

Now would you like to have more speeches or you want to adjourn?

Senator Mian Raza Rabbani: Adjourn it.

Mr.Chairman: O.K. At what time on Monday morning.

Mian Raza Rabbani: At 10.30 AM.

Mr. Chairman: 10.30. So, the House is adjourned now.

ڈاکٹر شیر افگن خان نیازی، جناب! ایک میری آپ سے submission ہے کہ یہ درست ہے کہ

Senate has been working very hard and the Seante has passed it because this was a huge exercise which has been carried out with so much vigour. But now I request humbly to this House and the Chair that there are certain Bills whcih are likely to be lapse. So, I will request that they may be taken up and I will request the Chair to help in this respect.

جناب چیئرمین، جیسے ہی بجٹ ختم ہو جائے تو

we will go to the normal Upper House and then in a normal business it should be considered..

Dr. Sher Afgan Khan Niazi: After 13th, sir,

وہ تین چار روز ہیں۔

(مداخلت)

Senator Muhammad Ishaq Dar : Sir, the Budget process has not yet completed. The minority recommendations or you may call it Cut Motions those are in the process of being moved, those are to be debated on Monday and those are sir, with you and the entire work is complete, Mr. Chairman.

Mr. Chairman: When you take up the normal business of the House.

سینیٹر محمد اسحاق ڈار، After that جو یہ لانا چاہتے ہیں پھر ان سے بات ہو جائے گی۔ لیکن خود ہی آپ کہتے ہیں کہ Budget proceedings کے دوران کام نہیں ہو گا۔

جناب چیئرمین، نہیں، نہیں، یہ نہیں کہہ رہے۔

سینیٹر محمد اسحاق ڈار، لہذا میری گزارش یہ ہے کہ وہ کام ابھی مکمل نہیں ہوا۔

We have not concluded our job.

سینیٹر پروفیسر خورشید احمد، نہیں، ہمارا کام مکمل ہونے دیں۔

جناب چیئرمین، نہیں۔ وہ بھی یہ نہیں کہہ رہے۔

ڈاکٹر شیر افگن خان نیازی، میری گزارش سادا سی ہے کہ

جناب چیئرمین، نہیں۔ وہ بھی یہ نہیں کہہ رہے۔

ڈاکٹر شیر افگن خان نیازی، میری گزارش سادا سی ہے کہ

after the 13th which are the days left.......

(مداخلت)

سینیٹر پروفیسر خورشید احمد، بجٹ complete کر لیجیے، جیسا agree ہوا ہے meeting میں اس کے بعد ہم cooperate کریں گے اور قوانین پر بحث کریں گے۔

Mr. Chairman: The House is adjourned now to meet again *Insha Allah* on Monday at 10.30 A.M. Thank you very much.

[The House was then adjourned to meet again on Monday the 13th June, 2005 at 10.30 A.M.]